

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقُلُونِ عِرْفَانٌ

پارا ۳۰

ترجمہ

شیخ الاسلام داکٹر محمد طاہر القاری

جملہ حقوق بحق مترجم محفوظ ہیں۔

اشاعت نمبر ۱ : جولائی ۲۰۱۱ء (تعداد: ۲,۰۰۰)

اشاعت نمبر ۲ : مئی ۲۰۱۵ء (تعداد: ۱,۰۰۰)

مطبع: منہاج القرآن پرنسپلز، لاہور

ISBN 798-969-32-0879-5

آن لائی مطالعہ اور تلاوت کے لیے دیکھیے:

www.irfan-ul-quran.com



منہاج القرآن پبلیکیشنز

365-M, Model Town, Lahore, Pakistan.

Ph. [+92-42] 111 140 140 [ext. 153], 3516 5338

Fax. [+92-42] 3516 3354

Yousuf Market, Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore.

Ph. [+92-42] 3723 7695

www.minhaj.org | www.minhaj.biz

mqi.salespk@gmail.com

facebook.com/TahirulQadri | twitter.com/TahirulQadri

۲۰۰ آیا تھا ۲۸ سُورَةُ النَّبَا مَكْيَّةٌ رکوعا تھا

رکوع

سورۃ النَّبَا کی

آیات ۳۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع چونہایت مہربان ہمیشہ حمر فرمائے والا ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۖ ۱) عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ۲) الَّذِي هُمْ

یوگ آپس میں کس (جیز) سے متعلق سوال کرتے ہیں؟ (کیا) اس عظیم بزرے سے متعلق (پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟) جس کے بارے میں وہ

فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۳) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۴) ثُمَّ كَلَّا

اختلاف کرتے ہیں ۵) ہرگز (وہ خبر لائق انکار) نہیں وہ عقیریب (اس حقیقت کو) جان جائیگے ۵) (ہم) پھر (کہتے ہیں: اختلاف دانکار) ہرگز

سَيَعْلَمُونَ ۵) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۶) وَالْجَبَالَ

(درست) نہیں وہ عقیریب جان جائیگے ۵) کیا ہم نے زمین کو (زندگی کے) قیام اور کسب عمل کی جگہ نہیں بنایا؟ اور (کیا) پہاڑوں کو

أَوْتَادًا ۷) وَ خَلَقْنَاكُمْ أَرْوَاجًا ۸) وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ

(آئیں) ابھار کر کھڑا (نہیں) کیا؟ ۵) اور (غور کرو) ہم نے تمہیں (فروغ نسل کیلئے) جوڑا جوڑا پیدا فرمایا (ہے) ۵) اور ہم نے تمہاری نیند کو

سُبَاتًا ۹) وَ جَعَلْنَا الَّيلَ لِبَاسًا ۱۰) وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ

(جسمانی) راحت (کا سبب) بنایا (ہے) ۵) اور ہم نے رات کو (اُسکی تاریکی کے باعث) پر دہ پوش بنایا (ہے) ۵) اور ہم نے دن کو (کسی)

مَعَاشًا ۱۱) وَ بَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۱۲) وَ جَعَلْنَا

معاش (کا وقت) بنایا (ہے) ۵) اور (اب غلائی کائنات میں بھی غور کرو) ہم نے تمہارے اور پرسات مضبوط (طبقات) بنائے ۵) اور ہم نے

سِرَاجًا وَهَاجَا ۱۳) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُحْصَرَاتِ مَاءً شَجَاجًا ۱۴)

(سورج کو) روشنی اور حرارت کا (زبردست) شمع بنایا ۵) اور ہم نے بھرے باولوں سے موسلا دھار پانی بر سایا ۵)

لِخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ۱۵) وَ جَنَتٌ أَلْفَافًا ۱۶) إِنَّ يَوْمَ

تاکہ ہم اس (بارش) کے ذریعے (زمیں سے) اناج اور سبزہ نکالیں ۵) اور لگنے گئے باغات (اگاہیں) ۵) (ہماری قدرت کی ان

الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا لَّا يَوْمَ يُنْفَحُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ

نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کر) پیش کیا جائے کہ ایک مقررہ وقت ہے ۵ جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم گروہ درگروہ (الله کے

آفَوْاجًا لَّا وَفْتَحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا لَّا وَ

حضور) پلے آؤ گے ۱۵ اور آسمان (کے طبقات) پھاڑ دیے جائیں گے تو (پھٹنے کے باعث گیا) وہ دروازے ہی دروازے ہے جو جائیں گے ۱۵ اور پھاڑ

سُرِّيَرَتِ الْجَبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا طَ ۖ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ

(غبار بنا کر فضا میں) اڑا دیئے جائیں گے، سو وہ سراب (کی طرح کا عدم) ہو جائیں گے پیش کی دوزخ ایک

مُرْصَادًا لَّلَطَّاغِينَ مَابَا لَّا لِبَشِّرَيْنَ فِيهَا آخْرَابًا حَقَابًا حَ ۖ

گھات ہے ۵ (وہ) سرکشوں کا ٹھکانا ہے ۵ وہ ختم نہ ہونے والی پے در پے مدتنیں اسی میں پڑے رہیں گے

لَا يَدُوْقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا لَّا حَبِيبًا وَغَسَاقًا لَّا

ندوہ اس میں (کسی قسم کی) ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا ۵۰ سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی اور لے بختی ہوئی پیپ کے ۵۰

جَزَاءً وِفَاقًا طَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا لَّا وَ

(یہی ان کی سرکشی کے) موافق بدلہ ہے ۵ اس لئے کہ وہ تقطعاً حساب (آخرت) کا خوف نہیں رکھتے تھے ۱۵ اور

كَذَبُوا يَا لَتَّنَا كَذَابًا طَ ۖ وَكُلَّ شَيْءٍ عَلَى حَصِيلَةٍ كَتْبَاهَا لَ

وہ ہماری آئیوں کو خوب جھٹلایا کرتے تھے ۵ اور ہم نے ہر (چھوٹی بڑی) چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے ۵

فَذُوْقُوا فَلَنْ تَرْبِدَ كُمْ لَّا عَذَابًا لَّا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ

(اے مغکرو!) اب تم (اپنے کئے کا) مزہ چکھو ۵ اب ہم تم پر عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے ۵ پیش پر ہیزگاروں کے لئے

مَفَارِأً لَّا حَدَّ أَيْقَ وَأَعْنَابًا لَّا وَكَوَاعِبَ أَشْرَابًا لَّا

کامیابی ہے ۵ (ان کے لئے) باغات اور انگور (ہوں گے) اور جو اس سال ہم عمر دو شیرائیں (ہوں گی) ۵

وَكَاسَادِهَا قًا طَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوًا وَلَا كِذَبًا حَ ۖ

اور (شراب طہور کے) چھلتے ہوئے جام (ہوں گے) ۵ دیاں یہ (لوگ) نہ کوئی بے ہودہ بات سنیں گے اور نہ (ایک دوسرے کو) جھٹلانا (ہوگا) ۵

۔ (دو نیوں کے درمیان سے)

۔ بیان -

۔ (امیدیں نہ مر کریں بڑھنے لے)

جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا لَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ

یہ پکرب کھرف سے صلہ ہے جو (اعمال کے حساب سے) کافی (بڑی) عطا ہے (وہ) آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے (سب) کا

الْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلُكُونَ مِنْهُ خَطَابًا

پروردگار ہے، بڑی ہی رحمت والا ہے (گروہ قیامت اسکے عرب و جلال کا عالم یہ ہوگا کہ) اس سے بات کرنے کا (ٹھوپات میں سے) اُسی کو (بھی) یاد رہے ہوگا ۵

يَوْمَ يَقُومُ الرُّؤْمُ وَالْمَلَائِكَةَ صَفَّاقٌ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ

جس دن جرایل (روح الامین) اور (تمام) فرشتے صفت بستہ کھڑے ہوئے، کوئی لب کشائی نہ کر سکے گا، سوائے اس شخص کے جسے خدا نے رحمن

آذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ

نے اذن (شفاعت) دے رکھا تھا اور اس نے (زندگی میں تعلیماتِ اسلام کی طبق) اب اسی درست کی تھی ۵ یہ روزِ حق ہے، پس جو شخص

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى سَبِّهِ مَا بَأَبَا ۚ إِنَّ آنَذَنَاكُمْ عَذَابًا

چاہے اپنے رب کے حضور (رحمت و قربت کا) ٹھکانا بنالے ۵ بلا شہد ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے

قَرِيبًا ۖ يَوْمَ يُنْظَرُ الْبَرُّ مَا قَدَّمَتْ يَدِهُ وَ يَقُولُ

ڈرا دیا ہے، اس دن ہر آدمی ان (اعمال) کو جو اس نے آگے بھیجے ہیں دیکھ لے گا، اور (ہر) کافر کہے گا:

الْكُفَّارُ يَكُتُبُونَ كُتُبَ تُرَبَّا ۖ

اے کاش! میں مٹی ہوتا (اور اس عذاب سے بچ جاتا) ۵

إِنَّا لَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رَكُوعًا لَهُمْ ۗ ۸۱ مَكْيَّةٌ ۗ ۲۶ سُورَةُ التَّرْعِيْتِ

آیات ۲۶

سورة النازعات کی ہے

رکوعات ۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہیات مہربان ہمیشہ حرج فرمانے والا ہے ۵

وَالنَّرْعَتُ غَرْقًا ۖ وَالنِّشَاطِ نَشَطًا ۖ وَالسَّبِحَتِ

ان (فرشتوں) کی قسم جو نہیات ختنی سے کھلیتے ہیں ۵ اور ان (فرشتوں) کی قسم جو (مومنوں کی جان کے) نہیات نزی سے کھول دیتے ہیں ۵ اور ان (فرشتوں) کی قسم جو زمین و آسمان

سَبَحَا لَفَالسِّقْتِ سَبَقاً لَفَالْمَدَّرِتِ أَمْرًا

کوہ میان) تیری سے تیرتے پھرتے ہیں ۵ پھر ان (فشنون) کی اسم بوجاپک کر (دور دل سے) آگے بڑھ جاتے ہیں ۵ پھر ان (فشنون) کی اسم بوجوتف امور کی ندیہ کرتے ہیں ۵

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ لَا تَتَبَعَّهَا الرَّادِفَةُ طَفُولُوبِ

۷ اس دن (کائنات کی) ہر تحرک چیز شدید حرکت میں آ جائیگی ۵ پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اسکے پیچھے آ جائیگا ۵ اس دن (لوگوں

يَوْمَ مَيْزِنٍ وَّاجْفَةُ لَا أَبْصَارُهَا حَاسِنَةٌ مُّ يَقُولُونَ

کے) دل خوف و اضطراب سے دھڑکتے ہوئے ۵ ان کی آنکھیں (خوف و بہت سے) بھلی ہوں گی ۵ (کفار) کہتے ہیں:

عَرَاثَةً لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ طَ عَرَادَا كُنَّا عَظَامًا

کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلتائے جائیں گے؟ ۵ کیا جب ہم بوسیدہ (کھوکھی) ہڈیاں ہو جائیں گے (تب بھی زندہ کئے

نَخْرَةً طَ قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةً حَاسِرَةً مُ فَانَّا هَيَ

جانشینیگی؟ ۵ وہ کہتے ہیں: یہ (لوٹنا) تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہو گا ۵ پھر تو ایک ہی بار شدید بہت ناک آواز کیسا تھے

زَجْرَةً وَّاحِدَةً لَا فِإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ طَ هَلْ آتَكَ

(کائنات کے تمام اجرام کا) پھٹ جانا ہو گا ۵ پھر وہ (سب لوگ) یکا یک کھلے میدان (حشر) میں آموجوہ ہوئے ۵ کیا آپ کے پاس

حَدِيثُ مُوسَى مُ اذْنَادِهُ سَابِهٖ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

موی (علیہ السلام) کی خبر پہنچی ہے ۵ جب ان کے رب نے طوی کی مقdes وادی میں انہیں

طُوَّى طَ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَلْفٌ فَقُلْ هَلْ

پکارا تھا (اور حکم دیا تھا کہ) فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے ۵ پھر (اس سے) کہو: کیا تیری خواہش

لَكَ إِلَى آنْ تَرَكِ لَا وَأَهْدِيَكَ إِلَى سَابِكَ فَمَحْشِي طَ

ہے کتو پاک ہو جائے؟ ۵ اور (کیا تو چاہتا ہے کہ) میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاک تو (اس سے) ڈرنے لگے ۵

فَآتِهُ الْأَيَةَ الْكَبِيرَى طَ فَلَذَبَ وَعَصَى طَ شَمَّ أَدْبَرَ

پھر موی (علیہ السلام) نے اسے بڑی نشانی دکھائی ۵ تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی ۵ پھر وہ (حق سے) روگردان ہو کر (موی علیہ السلام) کی مخالفت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا سَرِّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

میں) سمجھی و کاوش کرنے لگا ۵۰ پھر اس نے (لوگوں کو) جمع کیا اور پکارنے لگا ۵۰ پھر اس نے کہا: میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں ۵۰

فَآخَذَهُ اللَّهُ نَجَّالَ الْأُخْرَةَ وَالْأُولَىٰ طٰ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ

تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کی (دوسری) سزا میں پکڑ لیا ۵۰ بیشک اس (داتھ) میں اس شخص کے لئے بڑی

لَعْبَرَةً لَمَنْ يَخْشِي طٰ عَآنْتُمْ أَشَدَّ خَلْقًا مِّنَ السَّمَاءِ طٰ

عبرت ہے جو (اللہ سے) ڈرتا ہے ۵۰ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا (پوری) سماوی کائنات کا، جسے

بَنَهَا وَقَفَةً رَافِعَ سَمَكَهَا فَسُونَهَا لٰ وَأَغْطَشَ لَبَّهَا وَأَخْرَجَ

اس نے بنایا؟ ۵۰ اس نے آسمان کے تمام کمزور (ستاروں) کو بلند کیا، پھر ان ۵۰ میں اعتدال، توازن اور استحکام پیدا کر دیا ۵۰ اور اسی نے آسمانی خلا کی رات کو ستاریک بنایا، اور

صَحْمَهَا صٰ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمَهَا طٰ أَخْرَجَ

(اس خلے سے) ان (ستاروں) کی روشنی (پیچا کر کے) کمال ۵۰ اور اسی نے زمین کو اس طے کے بعد (اس سے) الگ کر کے زور سے چینک دیا ۵۰ اسی نے زمین میں سے اس کا پانی

مِنْهَا مَا ءَهَا وَمَرْعَمَهَا صٰ وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا لٰ مَتَاعًا

(الگ) نکال لیا اور (بچی شک قطعات میں) اس کی جناتات نکالیں ۵۰ اور اسی نے (بعض مادوں کو باہم ملا کر) زمین سے حجم پہاڑوں کو بھار دیا ۵۰ (یہ سب کچھ) تمہارے

لَكُمْ وَلَا نَعَالِمُكُمْ طٰ فَإِذَا جَاءَتِ الظَّاهِمَةُ الْكُبْرَىٰ

اور تمہارے چھپا ہوں کے فائدہ کیلئے (کیا) ۵۰ پھر اس وقت (کائنات کے) بڑھتے بڑھتے (اکی انتہا پر) بر جیز پر غالب آجائے والی بہت سخت آفت (قیامت) آئی ۵۰

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ طٰ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ

اُس دن انسان اپنی (ہر) کوشش و عمل کو یاد کرے ۵۰ اور ہر دیکھنے والے کے لئے دوزخ ظاہر

لَيَسْنُ يَرَىٰ طٰ فَمَمَنْ طَغَىٰ طٰ وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لٰ

کر دی جائے گی ۵۰ پھر جس شخص نے سرکشی کی ہو گی ۵۰ اور دنیاوی زندگی کو (آخرت پر) ترجیح دی ہو گی ۵۰

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ طٰ وَمَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

تو بیشک دوزخ ہی (اُس کا) ٹھکانا ہو گا ۵۰ اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھرا ہونے سے ڈرتا رہا اور اُس نے (اپنے)

وَنَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ لَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۳۱

نفس کو (بری) خواہشات و شہوات سے باز رکھا تو پہنچ جنت ہی (اُس کا) ٹھکانا ہو گا ۵۰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا لَا فِيمَ آتَتَ ۳۲

(کفار) آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا موقع کب ہو گا ۵۰ تو آپ کو اس کے (وقت کے

مِنْ ذِكْرِهَا لَا إِلَى سَرِّكَ مُنْتَهِهَا لَا إِنَّمَا آتَتَ ۳۳

ذکر سے کیا غرض؟ ۵۰ اسکی انہا تو آپ کے رب تک ہے (یعنی ابتداء کی طرح انہا میں بھی صرف وحدت رہ جائیں) ۵۰ آپ تو محض اس شخص کو ڈر

مُبْدِئُ مَنْ يَحْشِهَا لَا كَانُوهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ ۳۴

مانے والے ہیں جو اس سے خائف ہے ۵۰ گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو (یہ خیال کریں گے کہ) وہ

يَكْبِشُوا إِلَّا عَشِيهَةً أَوْ صَحْمَهَا ۳۵

(دنیا میں) ایک شام یا اس کی صبح کے سوائل ہر ہی نہ تھے ۵۰

ایات ۲۲-۲۰ سورة عبس مکیۃ رکوعها ۱

آیات ۲۲

سورہ عبس کی ہے

ركوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵۰

عَبَسَ وَتَوَلََّ لَا أَنْجَاءَهُ الْأَعْمَىٰ لَا فَمَا يُدْرِيكَ لَهُ ۲

ان کے چہرہ (قدس) پر ناگواری آئی اور رخ (انور) موڑ لیا ۵۰ اس وجہ سے کہ اسکے پاس ایک نایبا آیا ۵۰ اور آپ کو کیا خبر شاید وہ

لَعَلَّهُ يَرَكُّشُ لَا أَوْ يَذَكِّرُ فَتَنَعَّمُهُ الْذِكْرَىٰ لَا أَمَّا ۳

(آپ کی توجہ سے مزید) پاک ہو جاتا ۵۰ (آپ کی) نصیحت قبول کرتا تو نصیحت اس کو (اور) فائدہ دیتی ۵۰ لیکن جو شخص (دین

مَنِ اسْتَغْنَىٰ لَا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدُّىٰ لَا فَمَا عَلَيْكَ أَلَا ۴

سے) بے پرواہ ۵۰ تو آپ اس کے (قبول اسلام کے) لیے زیادہ اہتمام فرماتے ہیں ۵۰ حالانکہ آپ پر کوئی ذمہ داری (کا بوجھ) نہیں اگرچہ

ب

پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)

يَرْبُّكُمْ طَوَّأَ مَانِ جَاءَكَ يَسْعَى لَوَهُوَ بَحْشٌ ۝ ۹

وہ پاکیزگی (ایمان) اختیار نہیں کرے ۵ اور وہ جو آپ کے پاس (خود طلب خیر کی) کوشش کرتا ہوا آیا ۵ اور وہ (اپنے رب سے) ڈرتا بھی ہے ۵

فَأَنْتَ عَنْهُ تَدْهُ ۝ ۱۰ گَلَّا إِنَّهَا تَذَرُّ كَرَّةً ۝ ۱۱ فَمَنْ شَاءَ

تو آپ اُس سے بے تو جھی فرمائے ہیں ۵ (اے عجیبِ مذکرم!) یوں نہیں بیٹکیا یہ (آیاتِ قرآنی) توضیحت ہیں ۵ جو شخص چاہے

ذَكَرَةً ۝ ۱۲ فِي صُحْفٍ مَكْرَمَةً ۝ ۱۳ لَمَرْفُوعَةً مُطَهَّرَةً ۝ ۱۴

اسے قول (وَأَزْبَرَ) کر لے ۵ (یہ) معزز و مکرم اور اُراق میں (لکھی ہوئی) ہیں ۵ جو نہایت بلند مرتبہ (اور) پاکیزہ ہیں ۵

بَا يَدِيْ سَفَرَةً ۝ ۱۵ كَرَامِ بَرَسَةً ۝ ۱۶ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا

ایسے نیروں (اور کاتبوں) کے ہاتھوں سے (آگے کچھی) ہیں ۵ جو بڑے صاحبان کرامت (اور) پیکران طاعت ہیں ۵ ہلاک ہو (وہ بدجنت

أَكْفَرَةً ۝ ۱۷ مِنْ أَمِّيْ شَيْعَ خَلْقَهُ ۝ ۱۸ مِنْ نُطْفَهٖ طَخَلَقَهُ ۝ ۱۹

منکر) انسان کیسا نا شکر اے ۱۵ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے ۵ نطفہ میں سے اس کو پیدا فرمایا، پھر ساتھ ہی اس کا (خواص

فَقَدَرَةً ۝ ۲۰ شُمَ السَّبِيلَ يَسِيرَهُ ۝ ۲۱ شُمَ آمَاتَهُ فَاقْبَرَهُ ۝ ۲۲

وجس کے لحاظ سے) تین فرمادیا ۵ پھر ۲ راہ اس کیلئے آسان فرمادی ۵ پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں (دفن) کر دیا ۵

شُمَ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۝ ۲۳ گَلَّا لَيَقْضِيْ مَا أَمْرَهُ ۝ ۲۴ قَلِيلٌ نُظْرٌ

پھر جب وہ چاہے گا اسے (دوبارہ زندہ کر کے) کھرا کرے ۵ یقیناً اس (نافرمان انسان) نے وہ (حق) پورا نہ کیا جس کا اسے (اللہ نے) حکم دیا تھا ۵ پس

الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝ ۲۵ أَنَا صَبَيْنَا الْبَاءَ صَبَّاً ۝ ۲۶ شُمَ

انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے (اور غور کرے) ۵ بیٹک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا ۵ پھر

شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّاً ۝ ۲۷ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّاً ۝ ۲۸ وَعِنْبَاؤَ

ہم نے زمین کو چھاڑ کر چیر ڈالا ۵ پھر ہم نے اس میں اناج اگایا ۵ اور انگور

قَصْبَاءً ۝ ۲۹ وَزَيْوَنَاءً وَنَحْلَاءً ۝ ۳۰ وَحَدَّ آيَقَ عَلِبَاءً ۝ ۳۱ وَفَاقِهَةَ

اور ترکاری ۵ اور زیتون اور کھجور ۵ اور گھنے گھنے باغات ۵ اور (طرح طرح کے) پھل میوے اور

وَآبَأَ لَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَا نَعَامِكُمْ ۝ فَإِذَا جَاءَتِ

(جانوروں کا) چارہ ۵ خود تمہارے مویشیوں کے لئے متاع (زیست) ۵ پھر جب کان پھاڑ دینے والی

الصَّاحَةُ ۝ يَوْمَ يَفْرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخْيَهِ ۝ وَأُمِّهِ وَ

آواز آئے گی ۵ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے ۵ اور اپنی ماں اور اپنے

آپیکو ۵ اور صاحبته و بنیکو ۵ لکل امری منه

باپ سے (بھی) ۵ اور اپنی بیوی اور اولاد سے (بھی) ۵ اس دن ہر شخص کو ایسی (پریشان کن) حالت لاحق ہوگی

يَوْمَئِنِ شَانٌ يَعْنِيهِ ۝ وُجُوهٌ يَوْمَئِنِ مُسْفِرَةٌ ۝

جوہا سے (ہر دوسرے سے) بے پدا کر دے گی ۵ اسی دن بہت سے چہرے (ایسے بھی ہوں گے جو نور سے) چمک رہے ہوں گے ۵

صَاحِكَةُ مُسَبِّسَةٌ ۝ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

(وہ) مسکراتے ہیتے (اور) خوشیاں مناتے ہوں گے ۵ اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس دن گرد پڑی ہوگی ۵

تَرَهْقَهَا قَتَرَةٌ ۝ أَوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

مزید (چہروں) پرسیا ہی چھائی ہوگی ۵ یہی لوگ کافر (اور) فاجر (بدکردار) ہوں گے ۵

آیا تھا ۲۹ ۸۱ سُورَةُ التَّكْوِيرٍ مَكَيَّةٌ ۷ رکوعها ۱

آیات ۲۹

سورۃ التکویر کی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان یہیشہ رحم فرمانے والا ہے ۵

إِذَا الشَّمْسُ كَوَسَتُ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتُ ۝ وَ

جب سورج پیٹ کر بے نور کر دیا جائے ۵ اور جب ستارے (اپنی کہکشاوں سے) گر پڑیں گے ۵ اور جب پہاڑ

إِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۝ وَإِذَا الْعِشَادُ عُطَلَتُ ۝ وَإِذَا

(غبار بنا کر فضا میں) چلا دیئے جائیں گے ۵ اور جب حاملہ او منیاں بے کار چھوٹی پھریں گی (کوئی ان کا خبر گیر نہ ہوگا) ۵ اور جب

رَّجِيمٌ ۝ فَإِنْ شَدَّهُوْنَ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ ۝

کلام نہیں ہے ۵ پھر (اے بدستخواہ!) تم (انتے بڑے خزانے کو چھوڑ کر) کدھر پلے جا رہے ہو ۵ یہ (قرآن) تو تمام جہانوں کیلئے

لِعَلِيْنَ ۝ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝ وَمَا

(صحیفہ) نصیحت ہے ۵ تم میں سے ہر اس شخص کیلئے (اس چشمہ سے ہدایت میر آسکتی ہے) جو سیدھی راہ چلتا چاہے ۵ اور تم

شَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ۵

﴿۱۹﴾ ایاتا ۱۹ سو۲ة الانفطا۰ مکیۃ ۸۲ رکوعها

آیات ۱۹

سورۃ الانفطا۰ کی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع چونہایت ہے، ان ہمیشور حرم فرمانے والا ہے

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اُنْتَرَتْ ۝

جب (سب) آسمانی کرے پھٹ جائیں گے ۵ اور جب سیارے بکھر جائیں گے ۵

وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِرَتْ ۝ وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝

اور جب سمندر (اور دریا) ابھر کر بہہ جائیں گے ۵ اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی ۵

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْرَتْ ۝ يَا أَيُّهَا

تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا عمل اس نے آگے بھیجا اور (کیا) پیچھے چھوڑ آیا تھا اے انسان! تجھے

الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرِبِّكَ الْكَرِيمُ ۝ لَا إِلَّا مَا خَلَقَكَ ۝

کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ۵ جس نے (جمدار کے اندر ایک نظمہ میں سے) تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے

فَسَوْلَكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَمِيْرِ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَسَّكَكَ ۝

(اعضازی کیلئے ابتداء) درست اور سیدھا کیا، پھر وہ تمی ساخت میں مناسب تبدیلی لایا ۵ جس صورت میں بھی چاہاں نے تجھے ترکیب دے دیا

كَلَّا بْلُكَذِبُونَ بِالرِّيْنِ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفْظِيْنَ ۚ ۱۰

حقیقت تو یہ ہے (اور) تم اس کے برعکس روز جزا کو جھٹلاتے ہو ۵ حالانکہ تم پر تنگیاں فرشتے مقرر ہیں ۵

كَرَامًا كَاتِبِيْنَ ۖ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ إِنَّ الْأَبْرَارَ

(جو) بہت معزز ہیں (تمہارے اعمال نامے) لکھنے والے ہیں ۵ وہ ان (تمام کاموں) کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو ۵ بیش نیکوکار

لَفْيُ نَعِيْمٍ ۖ وَ إِنَّ الْفُجَارَ لَفْيُ جَحِيْمٍ ۖ ۱۲

جست نعمت میں ہوں گے ۵ اور بیشک بدکار دوزخ (سوzaں) میں ہوں گے ۵

يَصُلُونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ۖ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَايَيْنَ ۖ ۱۴

وہ اس میں قیامت کے روز داخل ہوں گے ۵ اور وہ اس (دوزخ) سے (کبھی بھی) غائب نہ ہو سکیں گے ۵ اور

مَا آدَلَكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۖ ۱۵ لَشْمَ مَا آدَلَكَ مَا

آپ نے کیا سمجھا کہ روز جزا کیا ہے ۵ پھر آپ نے کیا جانا کہ روز

يَوْمُ الدِّيْنِ ۖ يَوْمَ لَا تَمِيلُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْءًا طَ

جزا کیا ہے ۵ (یہ) وہ دن ہے جب کوئی شخص کسی کیلئے کسی چیز کا مالک نہ ہو گا، اور حکم فرمائی

وَالَّا مُرِيَّدٌ مَعِذِ اللَّهِ عَ

اس دن اللہ ہی کی ہوگی ۵

رکوعها ۱

رکوع

سورہ المطففين کلی ہے

آیات ۳۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرج فرمانے والا ہے ۵

وَيْلٌ لِلْمُطَفَّفِيْنَ ۖ الَّذِيْنَ إِذَا أُكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ

بر بادی ہے ناپ قول میں کی کرنے والوں کیلئے ۵ یہ لوگ جب (دوسرے) لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو (ان سے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَلَوْهُمْ أَوْرَنُوهُمْ بِحَسْرَوْنَ ﴿٣﴾

پورا لیتے ہیں ۵ اور جب انہیں (خود) تاپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں ۵

أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَهْلَهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ وہ (مرنے کے بعد دوبارہ) اٹھائے جائیں گے ۵ ایک بڑے سخت دن کیلئے ۵

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ

جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے حضور کھڑے ہوں گے ۵ یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ اعمال صحیں

الْفُجَارِ لِفِي سِجَّينَ ﴿٧﴾ وَمَا آدَسَكَ مَا سِجَّينَ ﴿٨﴾

(یعنی دیوان خانہ جہنم) میں ہے ۵ اور آپ نے کیا جانا کہ صحیں کیا ہے ۵

كِتَبٌ مَرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيُلْ يَوْمَئِنِ لِلْمَكْدُبِينَ ﴿١٠﴾

(پیغام خلیلہ دوزخ میں اس بڑے دیوان کے اندر) لکھی ہوئی (ایک) کتاب ہے ۵ اس دن جھلاناے والوں کیلئے جاہی ہوگی ۵

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ

جو لوگ روزِ جزا کو جھلاتے ہیں ۵ اور اسے کوئی نہیں جھلاتا سوائے ہر

إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِلٌ أَثْيَمٌ ﴿١٢﴾ إِذَا تُشْتَلِي عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ

اس شخص کے جو سرکش و گنگا رہے ہے جب اس پر ہماری آئیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا (یا سمجھتا) ہے کہ (یہ تو)

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا بَلْ سَكَنَةَ رَأَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا

اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ۵ (ایسا) ہرگز نہیں بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) انکے دلوں پر ان اعمال (بد) کا زندگ چڑھ گیا ہے جو وہ کہا

كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنِ سَبِّهِمْ يَوْمَئِنِ

کرتے تھے (سلیمان آئیں انکے دل پر اثر نہیں کرتیں) ۵ حق یہ ہے کہ یہیں اس دن انہیں اپنے رب کے دیدار سے (محروم کرنے

لَمْ حَجُّوْبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ

کیلئے) پس پرده کر دیا جائے ۵ پھر وہ دوزخ میں جھونک دیئے جائیں گے ۵ پھر ان سے کہا جائے گا:

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ط ۚ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

یہ وہ (عذاب جہنم) ہے جسے تم جھٹالایا کرتے تھے ۵۰ یہ (بھی) حق ہے کہ بیشک نیکوکاروں کا نوشیہ اعمال علیین

الْأَبْرَارِ لَفِي عَلَيْيهِنَّ ط ۖ وَمَا آدَلْنَكَ مَا عَلَيْهِنَّ ط ۖ

(یعنی دیوان خانہ جنت) میں ہے ۵۰ اور آپ نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟

كِتَبٌ مَرْقُومٌ ط ۖ لَا يَسْهُدُهُ الْمَقْرُوبُونَ ط ۖ إِنَّ الْأَبْرَارَ

لے کھی ہوئی (ایک) کتاب ہے ۵۰ اس جگہ (الله کے) مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں ۵۰ بیشک نیکوکار (راحت و سرت

لَفِي نَعِيمٍ ط ۖ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ط ۖ لَا تَعْرِفُ فِي

سے) نعمتوں والی جنت میں ہونے ۵۰ تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ۵۰ آپ ان کے چہروں سے ہی

وُجُوهِهِمْ نَصَرَةَ النَّعِيمِ ط ۖ بُسْقَوْنَ مِنْ سَاجِقٍ

نعت و راحت کی رونق اور شفقتی معلوم کر لیں گے ۵۰ انہیں سر بر مہر بری لزیز شراب طہور
پالی جائے گی ۵۰ اس کی مہر کستوری کی ہوگی، اور (یہی وہ شراب ہے) جس کے حصول میں شاکرین کو جلد کوشش کر کے

مَحْتُوِّرٍ ط ۖ لَا خِيَةَ مُسْكٍ ط ۖ وَ فِي ذَلِكَ فَلِيَتَنَافِسِ

سبقت لینی چاہیے ۵۰ اور اس (شراب) میں آپ تنسیم کی آمیرش ہوگی ۵۰ (یہ تنسیم) ایک چشمہ ہے جہاں سے

بِهَا الْمُقْرَبُونَ ط ۖ إِنَّ الَّذِينَ آجَرُمُوا كَانُوا مِنَ

صرف اہل قربت پیتے ہیں ۵۰ بیشک مجرم لوگ ایمان والوں کا

الَّذِينَ أَمْنُوا يَصْحَّوْنَ ط ۖ وَ إِذَا مَرْوَادِهِمْ

(دینیا میں) نماق اڑایا کرتے تھے ۵۰ اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے

يَتَعَامِرُونَ ط ۖ وَ إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا

اشارة بازی کرتے تھے ۵۰ اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو (مومنوں کی تندیقی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے) اتراتے اور دل لگی

فَكَهِينَ ۝ وَإِذَا سَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهُمْ هُوَ لَا يَرَوْنَ ۝ ٣٢

کرتے ہوئے پلٹتے تھے ۵ اور جب یہ (مغور لوگ) ان (کمزور حال مونوں) کو دیکھتے تو کہتے: یقیناً یہ لوگ راہ سے بچک گئے ہیں ☆ ۵

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفْظِيْنَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ ۝ ٣٣

حالاکہ وہ ان (کے حال) پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے ۵ پس آج (دیکھو) اہل ایمان

اَمْنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَصْحَّوْنَ ۝ عَلَى الْاَرَأْيَكَ لَا ۝ ۳۴

کافروں پر پس رہے ہیں ۵ سچے ہوئے تھتوں پر بیٹھے (اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا)

يَنْظَرُوْنَ ۝ هَلْ تُؤْمِنُ بِالْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ ۝ ۳۵

نظراء کر رہے ہیں ۵ سوکیا کافروں کو اس (نماق) کا پورا بدلہ دے دیا گیا جو وہ (مسلمانوں سے) کیا کرتے تھے؟

﴿٨٢ سُورَةُ الْإِشْقَاقِ مَكَيْتَبَةٌ ۝ ۲۵ آيَاتٍ ۝ رَكْوَعَهَا ۱﴾

رکوع ۱

سورة الاشقاق کی ہے

آیات ۲۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

إِذَا السَّيَّاءُ اُشْقَتُ ۝ وَأَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقْتُ ۝ ۱

جب (سب) آسمانی کر رے پھٹ جائیں گے ۵ اور اپنے رب کا حکم (اشقاق) بجا لائیں گے اور (بیہی تعیل امر) اسکے لائق ہے ۵

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّثُ ۝ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحْتَهَا ۝ ۲

اور جب زمین (ریزہ ریزہ کر کے) پھیلادی جائے گی ۵ اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے نکال باہر پھیلے گی اور خالی ہو جائے گی ۵

وَأَذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقْتُ ۝ يَا يَيْهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِمٌ ۝ ۳

اور (وہ بھی) اپنے رب کا حکم (اشقاق) بجا لائے گی اور (بیہی اطاعت) اسکے لائق ہے ۵ اے انسان! تو اپنے رب تک پہنچنے میں

إِلَى رَبِّكَ كَذَّحًا فَلَقِيْهِ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوتَيَ كِتْبَهُ ۝ ۴

سخت مشقتیں برداشت کرتا ہے بالآخر تجھے اسی سے جا مانا ہے ۵ پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ

بِيَمِينِهِ لَا فَسُوفٌ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَسِيرًا ۸

میں دیا جائے گا ۵۰ تو عقریب اس سے آسان سا حساب لیا جائے گا اور

يُقْلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا طَ وَآمَامَنْ أُوتَىٰ كِتْبَةَ

وہ اپنے الہ خانہ کی طرف سرور و شاداں پلٹے گا ۵۰ اور البتہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیچھے کے

وَرَأَعَةَ ظَهِيرَةٍ لَا فَسُوفٌ يَدْعُوا بُشُورًا طَ وَ يَصْلِي

پیچھے سے دیا جائے گا ۵۰ تو وہ عقریب موت کو پکارے گا ۵۰ اور وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ

سَعِيرًا طَ إِلَهَ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا طَ إِلَهَ ظَنَّ أَنْ

میں داخل ہو گا ۵۰ بیشک وہ (دنیا میں) اپنے الہ خانہ میں خوش و خرم رہتا تھا ۵۰ بیشک اس نے یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ حساب کیلئے (الله

لَنْ يَحُومَ طَ بَلَىٰ طَ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا طَ فَلَا

کے پاس) ہرگز لوٹ کر نہ جائے گا ۵۰ کیوں نہیں ابیشک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ۵۰ سو مجھ قسم ہے شفق (یعنی شام کی سرخی یا

أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ طَ وَاللَّيلِ وَمَا وَسَقَ طَ وَالْقَمَرِ إِذَا

اسکے بعد کے اجائے) کی ۵۰ اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ (اپنے دامن میں) سمیٹ لیتی ہے ۵۰ اور چاند کی جب وہ پورا دکھائی

إِشْقَ طَ لَتَرْكِينَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ طَ فَمَا لَهُمْ لَا

دیتا ہے ۵۰ تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے ہوئے جاؤ گے ۵۰ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ (قرآنی پیشین گوئی کی صداقت دیکھ کر

يُؤْمِنُونَ طَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ طَ

بھی) ایمان نہیں لاتے؟ ۵۰ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو (الله کے حضور) سجدہ ریز نہیں ہوتے ۵۰

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ طَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

بلکہ کافر لوگ (اسے مزید) جھٹلا رہے ہیں ۵۰ اور اللہ (کفر و عداوت کے اس سامان کو) خوب جانتا ہے جو وہ

يُؤْعَنَ طَ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ طَ لَا لَا الَّذِينَ

جع کر رہے ہیں ۵۰ سو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں ۵۰ مگر جو لوگ ایمان لائے

أَمْنُوا وَعِمِلُوا الصِّلْحَتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مُمْسُوٰنِ ۝

اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے غیر منقطع (دائی) ثواب ہے ۵

۲۲ آیا تھا ۸۵ سُورَةُ الْبُرْوَجِ مَكَيَّةٌ رکوعها ۱

آیات ۲۲

سورۃ البروج کی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

وَالسَّمَاءَ عَذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝ وَالْبَيْوَمِ الْمَوْعِدِ ۝ وَشَاهِدِ

بر جوں (یعنی کہشاوں) والے آسمان کی قسم ۵ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے ۵ جو (اس دن) حاضر ہوگا اس کی قسم اور جو

وَمَشْهُودِ ۝ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ ۝ الْتَّارِذَاتِ

پچھے حاضر کیا جائے گا اس کی قسم ۵ خندقوں والے (لوگ) ہلاک کر دیے گئے ۵ (یعنی) اس بھڑکتی آگ (والے) جو بڑے ایندھن

الْمَوْقُودِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٍ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

سے (جلائی گئی) ۵ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے ۵ اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے (یعنی

بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٍ ۝ وَمَا نَقِمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا

انہیں آگ میں پھیک پھینک کر جلا رہے تھے) ۵ اور انہیں ان (مومنوں) کی طرف سے اور کچھ (بھی) ناگوارنہ تھا وائے اس کے

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ

کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو غالب (اور) لائقِ حمد و شنا ہے ۵ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی (ساری)

الْأَرْضِ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ

بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے ۵ پیش کی جن لوگوں نے مومن مردوں

فَتَنَوْا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ

اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ (بھی) نہ کی تو ان کے لئے عذاب جہنم ہے اور ان

**عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
كے لئے (باخصوص) آگ میں جلنے کا عذاب ہے ۵ پیش جو لوگ ایمان
اَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ لَهُمْ جَنَاحٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا^{۱۰}
لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے
الْأَنْهَرُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۚ إِنَّ بَطْشَ سَارِيكَ^{۱۱}
نہیں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے ۵ پیش آپ کے رب کی پکڑ
لَشَرِيدٍ ۚ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِعُ وَيُعِيدُ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ^{۱۲}
بہت سخت ہے ۵ پیش وہی پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا ۵ اور وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت فرمانے
الْوَدُودُ ۚ لَا ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۚ لَا فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۖ^{۱۳}
والا ہے ۵ ماں کے عرش (یعنی پری کائنات کے تخت اقتدار کماں) بڑی شان والا ہے ۵ وہ جو بھی ارادہ فرماتا ہے (اسے) خوب کر دینے والا ہے
هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۚ لَا فَرَعَونَ وَثَمُودَ ۚ بَلْ^{۱۴}
کیا آپ کے پاس لشرون کی خبر پہنچی ہے؟ ۵ فرعون اور ثمود (کے لشرون) کی ۵ بلکہ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۚ لَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِهِمْ^{۱۵}
ایسے کافر (ہمیشہ حق کو) جھٹلانے میں (ہی کوشش رہتے) ہیں ۵ اور اللہ ان کے گرد و پیش سے (انہیں) گیرے
مَجِيدٌ ۚ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۚ لَا فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٌ^{۱۶}
ہوئے ہے ۵ بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے ۵ (جو) لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے**

﴿۱﴾ ایاتها > ۸۶ سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِيَّةٌ رکوعها

رکوع ۱

آیات ۷۷ سورۃ الطارق کی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت محربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ۵

وَ السَّمَاءُ وَ الطَّارِقُ ۝ وَ مَا آدَلْكَ مَا الطَّارِقُ ۝

آسمان (کی فضائے بیط اور خلائے عظیم) کی قسم اور رات کو (نظر) آنے والے کی قسم ۵ اور آپ کو کیا معلوم کر رات کو (نظر) آنے والا کیا ہے ۵

النَّجْمُ الشَّاقِبُ ۝ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

(اس سے مراد) ہر وہ آسمانی کرہ ہے لے جو چک کر (غصا کو) روشن کر دیتا ہے ۵ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک آگہا (مقرر) نہیں ہے ۵

فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلَقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ۝

پس انسان (غور و تحقیق) کرنا چاہیے کہ وہ کس جیز سے پیدا کیا گیا ہے ۵ وہ قوت سے اچھنے والے پانی (یعنی توہین اور تحرک مادہ تویید) میں سے پیدا کیا گیا ہے ۵

يَحْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلُبِ وَ التَّرَآءِ ۝ إِلَهٌ عَلَىٰ

جو پیچھے اور کوئی ہے کی ہڈیوں کے درمیان (پیڑو کے حلقة میں) سے گزر کر باہر نکلتا ہے ۵ یہ شک وہ اس (زندگی) کو پھر

رَاجِعٍ لِقَادِرٍ ۝ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَّاًءِ ۝ لَا فَمَالَهُ مِنْ

وابسی لانے پر بھی قادر ہے ۵ جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے ۵ بھر انسان کے پاس نہ (خود) کوئی قوت ہوگی

قُوَّةٌ وَ لَا نَاصِرٌ ۝ وَ السَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ ۝ وَ

اور نہ کوئی (اس کا) مدگار ہو گا ۵ اس آسمانی کائنات کی قسم جو پھر انپی ابتدائی حالت میں پلٹ جانے والی ہے ۵ اس زمین

الْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ ۝ إِلَهٌ لَقَوْلٌ فَصُلُّ ۝ لَا وَمَاهُوَ

کی قسم جو بھٹ (کر ریزہ ریزہ ہو) جانے والی ہے ۵ یہ شک یہ فیصلہ کن (قطعی) فرمان ہے ۵ اور یہ ہنسی کی

بِالْهَرَلِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَ أَكِيدُ

بات نہیں ہے ۵ یہ شک وہ (کافر) پر فریب تدیریوں میں لگے ہوئے ہیں ۵ اور میں اپنی تدبیر فرمایا ۵

كَيْدًا ۝ فَمَهِلِ الْكُفَّارِ ۝ أَمْهَلُهُمْ رَوْيِدًا ۝

رہا ہوں ۵ پس آپ کافروں کو (ذرا) مہلت دے دیجئے، (بیاد نہیں لس) نہیں تھوڑی ہی ڈھیل (اور) دے دیجئے ۵

أَيَّا تَهَا ۝ ۸۷ سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكَّيَّةٌ ۝ رَكُوعُهَا ۱

سورة الاعلى علی ہے

آیات ۱۹

رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ كَنَمْ سَمَوَاتُ شَرُوعٍ جُونَاهِيَتْ مُهْرَبَانٍ بَهْيَشَهْ رَحْمَفَرْمَانَےِ وَالاَبَهِ

سَيِّحُ اسْمَ سَارِبِكَ اِلَّا عَلَى ۚ لِّذِي خَلَقَ فَسَوْى ۖ ۚ وَ

اپنے رب کے نام کی تہجی کریں جو سب سے بلند ہے ۵ جس نے (کائنات کی ہر چیز کو) پیدا کیا پھر اسے (جملہ محقیقین کی تکمیل کے ساتھ) درست تو ارن دیا اور

الَّذِي قَدَّسَ فَهَدَى ۖ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْغُى ۖ ۚ فَجَعَلَهُ

جس نے (ہر ہر چیز کیلئے) قانون مقرر کیا پھر ☆ راستہ بتایا اور جس نے (زمین سے) چارہ نکالا ۵ پھر اسے

عُثَّاَءَأَحَوَى ۖ طَ سَفِيرُكَ فَلَا تَنْسِى ۖ ۚ لِإِلَامَاشَاءَ

سیاہی مائل خشک کر دیا ۵ (اے جیسیب بکر تم!) ہم آپ کو خود (ایسا) پڑھائیں گے کہ آپ (کبھی) نہیں بھولیں گے ۵ مگر جو اللہ چاہے، بیشک وہ جہر اور خفی

اللَّهُ طَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهَرَ وَمَا يَخْفِي ۖ طَ وَنُبِيسِرُكَ لِلْيُسُرِى ۖ ۚ

(یعنی ظاہر و پوشیدہ اور بلند و آہستہ) سب باقتوں کو جانتا ہے ۵ اور ہم آپ کو ساسان (شریعت پر عمل پیرا ہونے) کیلئے (بھی) سہولت فراہم فرمائیں ۵

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرِى ۖ ۚ سَيِّلَ كَرْ مَنْ يَخْشِى ۖ ۚ لِ

پس آپ نصیحت فرماتے رہیے بشرطیکہ نصیحت (سنن والوں کو) فائدہ دے ۵ البتہ وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو گا ۵

وَ يَتَجَبَّهَا إِلَّا شَقَى ۖ لِّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبِرَى ۖ ۚ

اور بد بخت اس (نصیحت) سے پہلو تھی کرے گا ۵ جو (قیامت کے دن) سب سے بڑی آگ میں داخل ہو گا ۵

شَمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَى ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ ۖ ۚ لِ

پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیئے گا ۵ بیشک وہی بامداد ہوا جو (نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلوگیوں سے) پاک ہو گیا ۵

وَ ذَكَرَ اسْمَ سَارِبِهِ فَصَلَى ۖ طَ بَلْ تُؤَثِّرُ دُنَّ الْحَيَاةَ

اور وہا پہنچنے کا نام کا ذکر کرتا رہا اور (کثرت و پابندی سے) نماز پڑھتا رہا بلکہ تم (اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے) دنیاوی زندگی (کی

الدُّنْيَا ۖ وَ إِلَّا خِرَةٌ خَيْرٌ وَّ أَبْقَى ۖ طَ إِنَّ هَذَا لَغَيْ

لذتوں کو اختیار کرتے ہو ۵ حالانکہ آخرت (کی لذت و راحت) بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ۵ بیشک یہ (تعییم) اگلے صحیحوں

الصُّحْفُ الْأَوَّلِيٌّ لِصُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۱۹

میں (بھی ذکر) ہے ۵ (جو) ابراہیم اور موسیٰ ﷺ کے صحائف ہیں

۲۶ آیا تھا ۸۸ سورۃ الفاشیۃ مکہتہ رکوعہا ۶۸

رکوع

سورۃ الفاشیۃ کی ہے

آیات ۲۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جونہایت میربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

هَلْ آتَكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُودٌ يَوْمَئِذٍ
کیا آپ کو (ہر چیز پر) چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے ۵ اس دن کتنے ہی چھرے ذلیل و خوار
خَاشَعَةٌ ۲ لَا عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۳ لَا تَصْلِي نَارًا حَامِيَةٌ ۴

ہوں گے (اللہ کو بھول کر دنیاوی) محنت کرنے والے (چند روزہ عیش و آرام کی خاطرخت) مشقتیں جھیلیے والے ۵ وہی ہوئی آگ میں جا گریں گے ۵

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةٌ ۵ لَّيْسَ لَهُمْ طَاعَمٌ إِلَّا مِنْ
(ائین) کھولتے ہوئے چشمہ سے (پانی) پلایا جائے گا ان کے لئے خاردار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا

ضَرِيعٌ ۶ لَا يُسِينُ وَلَا يُعْنِي مِنْ جُوَعٍ ۷ وُجُودٌ
کچھ کھانا نہ ہوگا ۵ (یہ کھانا) نہ فریہ کرے گا اور نہ بھوک ہی دور کرے گا ۵ (اس کے عکس) اس دن بہت سے چھرے (حسین)

يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۸ لَّسْعِيَهَا ضَيَّةٌ ۹ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۱۰

باروں اور توتا زہوں گے ۵ اپنی (نیک) کاؤشوں کے باعث خوش و خرم ہوں گے ۵ عالی شان جنت میں (قیام پذیر) ہوں گے ۵

لَا تَسْمِعُ فِيهَا لَا غِيَةٌ ۱۱ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۱۲ فِيهَا

اس میں کوئی غوبات نہ میں گے (جیسے اہلِ باطل ان سے دنیا میں کیا کرتے تھے) ۵ اس میں بہت ہوئے چشم ہوں گے ۵ اس میں اوپنے

سَرَّ مَرْفُوعَةٌ ۱۳ وَأَكَوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۱۴ وَنَسَارِقُ

(بچھے ہوئے) تخت ہوں گے اور جام (بڑے قرینے سے) رکھے ہوئے ہوں گے ۵ اور غالیچے اور گاؤں تکیے قطار در قطار

مَصْفُوفَةٌ ۝ لَّا وَرَسَابٍ مَبْتُوَثَةٌ ۝ أَفَلَا يَنْظَرُونَ إِلَى

لگے ہوں گے ۵ اور نرم و نفیس قالین اور مند میں پچھی ہوں گی ۵ لے کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح
الْأَيْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ سُرِفَتْ ۝
وقفة

(عجیب ساخت پر) بنایا گیا ہے؟ اور آسمان کی طرف (نگاہ نہیں کرتے) کہ وہ کیسے (غفلیم و سعوتون کے ساتھ) اٹھایا گیا ہے؟ ۵

وَ إِلَى الْجَيْلِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ وہ کس طرح (زمین سے ابھار کر) کھڑے کئے گئے ہیں؟ ۵ اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ وہ کس

سُطْحَتْ ۝ فَذَكِّرْ قُطْ إِنَّهَا آنُتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ
طرح (گولائی کے باوجود) بچھائی گئی ہے؟ ۵ پس آپ نصیحت فرماتے رہئے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں ۵ آپ ان پر

عَلَيْهِمْ بِهِصِيرٍ ۝ لَا مَنْ تَوَلَّ وَ كَفَرَ ۝ لَا فَيُعَذِّبُهُ
جابر و تاہر (کے طور پر) مسلط نہیں ہیں ۵ مگر جو روگرانی کرے اور کفر کرے ۵ تو اے اللہ

اللَّهُ الْعَذَابُ أَلَّا كَبِرَ ۝ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَّاهُمْ ۝ لَا شُمَانَ
سب سے بڑا عذاب دے گا ۵ بیشک (بالآخر) ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے ۵ پھر یقیناً

عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ

ہمارے ہی ذممان کا حساب (لینا) ہے ۵

آیاتہا ۳۰۔ ۸۹ سُورَةُ الْفَجْرِ مَكْرِيمٌ ۱۰ رکوعها ۱

آیات ۳۰

سورة الحجرات ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع چونہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشَرِ ۝ وَالشَّفْعِ وَالوَثْرِ ۝ وَالْأَيْلِ
اس صحیح کی شمس (جس سے ظلمت شہ چھٹ گئی) ۵ اور دس (مبارک) راتوں کی قسم ۵ اور جخت کی قسم اور طلاق کی قسم ۵ اور رات کی قسم جب گزر

لے (مکر رنج کرنے تیار رہتے ہیں۔ یہ مکر کی وجہ نہیں بلکہ کیسے جو گفتہ
الصف - یہ مکر دوستی یہیں ہے۔ مکر کی وجہ ایسا ہے کہ مکر اسی کو کہا جائے گا
نائیت - پیغمبر مختار کی راستیں یہیں یا اول شرودی ایجادی راستیں میں جو رہتے درجات سے مدد ملیں
نائیت و مادی کی راستیں میں (مراد میں رضاکاری و مکاری کے انتہی شروری و کریمیں)
لے (مکر کی وجہ ایسا ہے کہ اسی کو کہا جائے گا)

إِذَا يَسِّرَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ قَسْمٌ لِّذِي حِجْرٍ طَّالَ

چلے (مراد ہر شب ہے یا بطور خاص شب مزدلفا شبِ قدر) ۵ پیشک ان میں عقائد کے لئے بڑی قسم ہے ۵ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے

تَرَكِيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ طَ اِسَامَ ذَاتِ الْعِمَادِ

رب نے (قوم) عاد کے ساتھ کیسا (سلوک) کیا؟ (جوہل) ارم تھے (اور) بڑے بڑے ستونوں (کی طرح دراز قد اور اوپر مخلات) والے تھے

الَّتِي لَمْ يُحِلُّ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ طَ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا

جن کا مش (دیا کے) ملکوں میں (کوئی بھی) پیدا نہیں کیا گیا ۵ اور شمود (کیسا تھا کیا سلوک ہوا) جنہوں نے وادی (قری) میں چانوں کو کاٹ (کر پتھروں

الصَّحْرَ بِالْوَادِ طَ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ طَ الَّذِينَ

سے بینکروں شہروں کو تغیر کر) الاتھا ۵ اور فرعون (کا کیا حشر ہوا) جو بڑے شکروں والا (یا لوگوں کو میتوں سے بزرگ ہے والا) تھا ۵ (یہ) وہ لوگ (تھے)

طَغَوْا فِي الْبِلَادِ طَ فَآتَنَا كُثُرًا فِيهَا الْفَسَادَ طَ فَصَبَ

جنہوں نے (اپنے اپنے) ملکوں میں سرکشی کی تھی ۵ پھر ان میں بڑی فساد انگلیزی کی تھی ۵ تو آپ کے

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَاعَنَابٍ طَ لِّإِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ طَ

رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ۵ پیشک آپ کا رب (سرکشوں اور نافرمانوں کی) خوب تاک میں ہے ۵

فَآمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا أَبْتَلِيهُ رَبُّهُ فَآكُرَمَهُ وَنَعَمَهُ لَهُ

مگر انسان (ایسا ہے) کہ جب اس کا رب اسے (راحت و آسائش دے کر) آزماتا ہے اور اسے

فَيَقُولُ رَبِّيْ آكُرَمِنِ طَ وَآمَّا إِذَا مَا أَبْتَلِيهُ فَقَدَرَ

نعمتیں بیشتر ہے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا ۵ لیکن جب وہ اسے (تکلیف و مصیبت دے کر) آزماتا ہے اور اس

گذشتہ سے پہلیستہ ۵ جفت (جوڑا) سے مراد کل خلق ہے جو جزوؤں کی صورت میں پیدا کی گئی ہے، اور طاق (فرد و تھنا) سے مراد خالق ہے جو وجودہ لا شریک ہے۔ یا شفع یو مخ (قربانی) اور تو یو عرف (نچ) ہے، یا شفع سے مراد نبایکے شب و روز یہیں اور تو سے مراد یوم قیامت ہے جس کی کوئی شب نہ ہوگی۔ یا شفع سے مراد سال بھر کی عام جخت راتیں ہیں اور تو سے مراد سال بھر کی برکت والی طاق راتیں ہیں، خلاصہ محراج شب برأت اور شب قدر وغیرہ جو پر درپے رجب، شعبان اور رمضان میں آتی ہیں۔ یا شفع سے مراد حضرت آدم عليه السلام اور حضرت حواء علیہ السلام کا پہلا جوڑا ہے اور و تو سے مراد تھا حضرت آدم عليه السلام، جن سے تخلیق انسانیت کی ابتداء ہوئی۔

عَلَيْهِ سَرْقَةٌ فَيَقُولُ سَبِّيْ أَهَانَنِ ۝ كَلَّا بُلَّ لَا تَكِرِّمُونَ

پر اس کا رزق نہ گ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے: میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا یہ بات نہیں بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر) تم تیموروں

الْيَتَيْمٌ ۝ لَا تَحْضُونَ عَلَى طَاعَمِ الْمُسْكِينِ ۝ ۱۸

کی قدر اور کرام نہیں کرتے ۵۰ اور نہ ہی تم مسکینوں (یعنی غریبوں اور محرومین) کو کھانا کھلانے کی (معاشرے میں) ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو تو اور

تَأْكُلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَّهَا ۝ لَا وَرِجْبُونَ الْمَالَ حُبًّا

وارثت کا سارا مال سیٹ کر (خود ہی) کھا جاتے ہو (اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے) ۵۰ اور تم مال و دولت سے حد درج محبت

جَهَّاً ۝ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا ۝ لَا وَجَاءَ

رکھتے ہو ۵۰ یقیناً جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی ۵۰ اور آپ کا رب جلوہ فرمा ہو گا

سَابِكَ وَالْمَلَائِكَ صَفَاقَصَفَّا ۝ وَجَاءَ عَيْوَمِيزٌ بِجَهَنَّمَ ۝ ۲۳

اور فرشتے قطار در قطار (اس کے حضور) حاضر ہوں گے ۵۰ اور اس دن دوزخ پیش کی جائے گی، اس دن

يَوْمِئِيزٌ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَآتَنِ لَهُ الذِّكْرَى ۝ ۲۴

انسان کو سمجھ آجائے گی مگر (اب) اسے بصیرت کہاں (فائدہ مند) ہو گی ۵۰ وہ کہے گا: اے کاش! میں نے اپنی (اس اصل) زندگی کے

يَلِيَّتِنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاَتِيْ ۝ قَيْوَمِيزٌ لَا يَعْذِبُ عَذَابَهَ ۝

لئے (کچھ) آگے کھیج دیا ہوتا (جو آج میرے کام آتا) ۵۰ سو اس دن نہ اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب

أَحَدٌ ۝ لَا يُوْرِقُ وَثَاقَةً أَحَدٌ ۝ يَا يَهَا النَّفْسُ

دے سکے گا ۵۰ اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا ۵۰ اے اطمینان پا جانے

الْمُطَبِّنَةُ ۝ اُسْ جَعِيَّ إِلَى سَابِكَ سَاضِيَّةَ مَرْضِيَّةَ ۝ ۲۶

والے نفس ۵۰ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کر تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ۵۰

فَادْخُلِيْ فِي عِبَرِيْ ۝ لَا وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝ ۲۷

پس تو میرے (کامل) بندوں میں شامل ہو جاہ اور میری جنت (قریب و دیدار) میں داخل ہو جاہ

۱۔ رکوعها ۲۰۔ سُورَةُ الْبَلْدِ مَكْيَّةٌ ۳۵

آیات ۲۰ سورۃ البلدی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

۱۔ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلْدِ لَا وَأَنْتَ حَلْ بِهَذَا الْبَلْدِ لَا

میں اس شہر (مکہ) کی قسم کھاتا ہوں ۵ (اے حبیب مکرم!) اس لئے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرماء ہیں ۵

۲۔ وَ إِلَيْ وَمَا وَلَدَ لَا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِيرٍ ط

(اے حبیب مکرم! آپکے والد) (آدم یا ابراہیم پیغمبر) کی قسم اور (آنکی) قسم جن کی ولادت ہوئی ۵ یہاں نے انسان کو مشقت میں (بیتلار ہے والا) پیدا کیا ہے ۵

۳۔ آيَ حَسْبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۵ يَقُولُ أَهْلَكْتُ

کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی بھی قابو نہ پاسکے گا؟ ۵ وہ (بڑے فخر سے) کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر و مال خرچ کیا ہے ۵ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے (یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے) کسی نے نہیں دیکھا ہے کیا ہم نے اس کیلئے دو

۴۔ مَالًا لَبَدًا ۶ آيَ حَسْبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۷ طَ أَلَمْ نَجْعَلْ

مال خرچ کیا ہے ۵ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے (یہ فضول خرچیاں کرتے ہوئے) کسی نے نہیں دیکھا ہے کیا ہم نے اس کیلئے دو

۵۔ لَهُ عَيْنَيْنِ ۸ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ۹ وَ هَدَيْنَهُ

آنکھیں نہیں بنائیں ۵ اور (اے) ایک زبان اور دو ہونٹ (نہیں دیجئے) ۵ اور ہم نے اسے (خیر و شر کے) دونوں ایاں راستے

۶۔ الْجَدَدَيْنِ ۱۰ فَلَا أُقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ ۱۱ وَ مَا آدَرْلَكَ مَا

(بھی) و کھادیے ۵ وہ تو (دین حق اور عمل خیر کی) دشوار گزار گھٹائی میں داخل ہی نہیں ہوا ۵ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ (دین حق کے

۷۔ الْعَقَبَةُ ۱۲ طَ فَلَيْ سَرَقَبَةُ ۱۳ لَا أَوْ اطْعُمُ فِي يَوْمِ رِذْءٍ مَسْعَبَةً ۱۴ لَا

مجاہدہ کی) گھٹائی کیا ہے ۵ وہ (غذائی و دعویی کی زندگی سے) کسی گرون کا آزاد کرنا ۵ یا بھوک والے دن یہ کھانا کھلانا ہے ۵

۸۔ يَنْبِيَنَا ذَامَقَبَةُ ۱۵ لَا وَ مُسْكِيَنَا ذَامَتَرَبَةُ ۱۶ طَ ثُمَّ كَانَ

قرابت دار یتیم کو ۵ یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین (اور بگھر) ہے ۵ پھر (شرط یہ ہے کہ ایسی جدوجہد کرنے والا) وہ

(یعنی امام یا شیخ کی زندگی کی تشریف ہے۔ لا تُنْهِي، کیلئے ہو تو ہم نہیں کیلئے اُنکی قسم ہم ہمارے۔) (لے (یعنی تقدیماں کے درمیں نہیں اور کرم ایمیٹ اگو اکو) (یعنی ان کے معاملی اوقافیاں کے درمیں نہیں اور کرم ایمیٹ اگو اکو) (یعنی اس شہر کے رخصت ہو جاؤں کے۔)

مِنَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ ط١٧

شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت ترتیب ہے اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے ہیں ۵

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْبَيْتَةِ ط١٨ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ

یہی لوگ دائیں طرف والے (یعنی اہلِ سعادت و مغفرت) ہیں ۵ اور جن لوگوں نے ہماری آئیوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے

أَصْحَابُ الْمُسْمَئَةِ ط١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ

ہیں (یعنی اہلِ شناخت و عذاب) ہیں ۵ ان پر (ہر طرف سے) بندکی ہوئی آگ (چھائی) ہوگی ۵

إِنَّمَا يَنْهَا مَنْ يَكْفُرُ بِهَا ۖ آیات ۱۵ مُسْوَرَةُ الشَّمْسِ مَكْيَّةٌ ۖ ۲۶ رکوعها ۱

آیات ۱۵ سورۃ الشَّمْسِ مَكْيَّةٌ رکوعها ۱

سورۃ الشَّمْسِ مَكْيَّةٌ کی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت ہم بان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ۵

وَالشَّمْسِ وَضُحْمَهَا ط٢٠ وَالقَمَرِ إِذَا تَلَهَا ط٢١ وَالنَّهَارِ

سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم ۵ اور چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے (یعنی اس کی روشنی سے چکے) ۵ اور دن کی قسم جب وہ سورج کو

إِذَا جَلَّهَا ط٢٢ وَاللَّيلِ إِذَا يَعْشَهَا ط٢٣ وَالسَّمَاءَ وَمَا

ظاہر کرے (یعنی اسے روشن دکھائے) ۵ اور رات کی قسم جب وہ سورج کو (زمین کی ایک سمت سے) ڈھانپ لے ۵ اور آسمان کی قسم اور اس (وقت) کی قسم جس

بَنَهَا ط٢٤ وَالْأَرْضَ وَمَا طَحَّمَهَا ط٢٥ وَنَفِيسٍ وَ مَا

نے اسے ۵ تغیر کیا ۵ اور زمین کی قسم اور اس (وقت) کی قسم جو اسے (امرِ الہی سے سورج سے کھینچ دو) لے گئی ۵ اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو

سَوْلَهَا ط٢٦ فَآلَهُمْهَا فِجُورًا هَا وَتَقْوِهَا ط٢٧ قَدْ أَفْلَحَ

تو ازان و درشی دینے والے کی قسم ۵ پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری (کی تبیز) سمجھادی ۵ پیش کی شخص نامرا وہ گیا جس نے اس (نفس) کو

مَنْ زَكَّهَا ط٢٨ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ط٢٩ گَلَّ بَثٌ

(رذائل سے) پاک کر لیا (اور اس میں بیکنی کی نشوونما کی) ۵ اور بیکن و شخص نامرا وہ گیا جس نے اسے (گناہوں میں) ملوٹ کر لیا (اور بیکن کو دیا) ۵ شمود نے اپنی

شَوْدٌ بِطَغْوَهَا صَلٌ إِذَا نَبَعَتْ أَشْقَهَا صَلٌ فَقَالَ لَهُمْ

سرکشی کے باعث (اپنے پیغمبر صاحب ﷺ کو) جھٹلایا ہو جکہ ان میں سے ایک برا بدجنت اٹھا ہو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا: اللہ

سَاسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَهَا طَ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا

کی (اس) اوثنی اور اس کو پانی پلانے (کے دن) کی حفاظت کرنا ہو تو انہوں نے اس (رسول) کو جھٹلایا، پھر اس (اوثنی) کی کوچیں کاٹ

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ سَارِبِهِمْ بِذَنِبِهِمْ فَسَوْهَا صَلٌ وَ لَا

ڈالیں تو انکے رب نے ائمہ گناہ کی وجہ سے ان پر ہلاکت نازل کر دی، پھر (پوری) بستی کو (جاہ کر کے عذاب میں سب کو) برآ برکر دیا ہو اور اللہ کو

يَخَافُ عَقْبَهَا ۱۵

اس (ہلاکت) کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوتا

﴿۹۲﴾ سُورَةُ الْيَلِ مَكَّيَّةٌ ۲۱ آیاتا رکوعها ۱

رکوع ۱

سورۃ اللیل کی ہے

آیات ۲۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع ہونہا یہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

وَاللَّیلِ إِذَا يَعْشَی لَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ لَ وَمَا

رات کی قسم جب وہ چھا جائے (اور ہر چیز کو اپنی تاریکی میں چھپا لے) اور دن کی قسم جب وہ پچک اٹھے اور اس ذات کی (قسم)

خَلْقَ الدَّكَرِ وَالْأُنْثَى لَ وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى طَ فَآمَّا

جس نے (ہر چیز میں) زر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہو بیکث تھا رہی کوشش مختلف (اور جدا گانہ) ہے اور جس نے (پناہ اللہ کی راہ میں)

مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى لَ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى لَ فَسَيِّسُهُ ۶

دیا اور پہیزگاری اختیار کی ہے اور اس نے (انفاق تقوی کے ذریعے) اچھائی (یعنی دین اور آخرت) کی تصدیق کی تو ہم عنقریب سے آسانی (یعنی

لِلْدُيْسِرِي طَ وَآمَّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى لَ وَكَذَبَ

رضاۓ الہی) کیلئے سہولت فراہم کر دیں گے اور جس نے بخی اور (راہ حق میں مال خرچ کرنے سے) بے پروار ہوا اور اس نے (یوں) اچھائی (یعنی

منزل)

بِالْحُسْنَىٰ ۖ لَا فَسِيرَةٌ لِّلْعُسْرَىٰ ۖ طَ وَمَا يُعْنِي عَنْهُ

وہیں حق اور آخرت کو جھلایا تو ہم عنقریب اسے سمجھی (یعنی عذاب کی طرف بڑھنے) کیلئے سہولت فرم، کر دیں گے اور اس کا مال اسکے کسی کام

مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۖ طَ إِنَّ عَلَيْنَا لَهُدْيٰ ۖ طَ وَإِنَّ لَنَا

نہیں آیا گا جب وہ ہلاکت (کے گڑھے) میں گرے گا پیش راو (حق) دکھانا ہمارے ذمہ ہے اور پیش رہی ہے

لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۖ فَانْذِرْنَا مُتُكْمِنْ نَاسًا تَنَظِّي ۖ طَ لَا

آخرت اور دنیا کے مالک ہیں ۵ سو میں نے تمہیں (دوخ زکی) آگ سے ڈرا دیا ہے جو بھڑک رہی ہے ۵ جس میں

يَصْلِهَا إِلَّا أَلَا شُقْقَىٰ ۖ طَ الَّذِي كَذَبَ وَ تَوَلَّىٰ ۖ طَ

انہائی بد جنت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا ۵ جس نے (دین حق کو) جھلایا اور (رسول کی اطاعت سے) منہ پھیر لیا ۵

وَسَيْجِنِهَا أَلَا تَقِيَ ۖ طَ الَّذِي يُؤْتَى مَالَهُ يَنْزَكُ ۖ طَ وَمَا

اور اس (آگ) سے اس بڑے پرہیز گارث شخص کو چھایا جائے گا جو اپنا مال (اللہ کی راہ میں) دیتا ہے کہ (اپنے جان و مال کی) پاکیزگی حاصل کرے ۵ اور

لَا حَدِّ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ طَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ ۖ طَ

کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو ۵ مگر (وہ) صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لئے

سَابِكَ إِلَّا عَلَىٰ ۖ طَ وَلَسَوْفَ يَرْضِيٰ ۖ طَ

(مال خرچ کر رہا ہے) ۵ اور عنقریب وہ (اللہ کی عطا سے اور اللہ اس کی وفا سے) راضی ہو جائے گا ۵

إِيَّاهَا ۖ ۱۱ ۶ سُوْرَةُ الضَّحْيَ مَكَّيَّةٌ ۖ ۱۱ رَكُوعُهَا

آیات ۱۱ رکوع ۱ سورۃ الضھی کی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرج فرمانے والا ہے ۵

وَالضَّحْيٰ ۖ طَ وَاللَّيلٰ إِذَا سَجَىٰ ۖ طَ مَا وَدَعَكَ سَابِكَ وَ

فُسم ہے چاشت کے وقت کی ۵ اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ۵ کپے رب نے (جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے) آپکویں چھوٹا اور نہ

مَا قَلِيلٌ وَلَلَا خِرْدَةٌ حَيْرَتَكَ مِنَ الْأُوْلَىٰ طَ وَلَسْوَفَ

ی (جب سے آپ کو محب بنا یا ہے) نارض ہوا ہے ۵ اور بیک (ہر) بعد کی گھڑی آپ کیلئے پہلی سے بہتر (جنی باعث عظمت و رفت) ہے ۵ اور آپ کا رب
يُعْطِيهِكَ سَبُّكَ فَتَرْضِي طَ الَّمِ يَجْدُكَ يَتَبَيَّنَافَاؤِي ۶

غیر بیک آپ کو (تنا کچھ) عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں ۵ (اے جیب!) کیاں نے آپ کو تین نیں پایا پھر اس نے (آپ کو معزز و کرم) ٹھکانا دیا ۵

وَ وَجَدَكَ صَالِلَ فَهَدَىٰ ۷ وَ وَجَدَكَ عَالِلَ ۸

اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفڑ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا ۵ اور اس نے آپ (وصال حق کا) حاجت مند پایا تو اس نے (اپنی

فَاغْنِي طَ فَامَا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهِرْ طَ وَ اَمَّا السَّاَلِلُ ۹

لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کیلئے ہر طلب سے) بے نیاز کر دیا ۵ سو آپ بھی کسی میتیم پر بختم نہ فرمائیں ۵ اور (اپنے در کے) کسی ملنگتے

فَلَا تَتْهَرْ طَ وَ اَمَّا بِنْعَمَةِ سَبُّكَ فَحَدِيثُ ۱۱

کونہ جھٹکیں ۵ اور اپنے رب کی نعمتوں کا (غوب) تنکرہ کریں ۵

سورة الاشراح / الشرح مکتیبۃ ۱۲ رکوعها ۱ ایاتها ۸

آیات ۸ سورۃ الاشراح / الشرح کی ہے رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

أَلَمْ نَشَرِّحْ لَكَ صُدُّرَكَ طَ وَ قَصْعَانَكَ وِزَرَكَ طَ ۲

کیا تم نے آپ کی خاطر آپ کیسینہ (انوار علم و حکمت اور معرفت کیلئے) کشاہ نہیں فرمادیا ۵ اور ہم نے آپا (غم امت کا وہ) بار آپ سے اتار دیا ۵

ترجمہ نمبر ۳: قسم ہے وقت چاشت (کی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بلدو نے) کی (جس کے نور نے گمراہی کے اندر ہیروں کو جالے سے بدل دیا ۵)

آیت نمبر ۲ ترجمہ نمبر ۲: کیا اس نے آپ کو (مہربان) نہیں پایا پھر اس نے (آپ کے ذریعے) تینیوں کوٹھکا نہ دیا ۵

آیت نمبر ۷ ترجمہ نمبر ۷: اور اس نے آپ کو (جو ادو کرم) پایا تو اس نے (رجھانی فرمائے والا) پایا تو اس نے (انہیں آپ کے ذریعے) ہدایت دے دی ۵

آیت نمبر ۸ ترجمہ نمبر ۸: اور اس نے آپ کو (جو ادو کرم) پایا تو اس نے (آپ کے ذریعے) متحا جوں کو غیری کر دیا ۵

الَّذِي أَنْقَضَ طَهْرَكَ لَا وَرَفَعَنَالَكَ ذُكْرَكَ طَفَانَ

جو آپ کی پشت (مبارک) پر گرال ہو رہا تھا اور ہم نے آپ کی خاطر آپا کر (اپنے ذکر کیسا تھا مل کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ) بلند فرما دیا ۵ سو بیشک

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لَا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا طَفَانَ

ہر دشواری کے ساتھ آسانی (آئی) ہے ۵ یعنی (اس) دشواری کے ساتھ آسانی (بھی) ہے ۵ پس جب آپ (علیم امت، تبلیغ و

فَرَغْتَ فَانْصَبْ لَا وَإِلَى سَارِكَ فَأَنْرَاغَبْ

جہاد اور ادا نیگی فرائض سے) فارغ ہوں تو (ذکر و عبادت میں) محنت فرمایا کریں ۵ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں ۵

﴿۸﴾ ایاتہا ۸ ۹۵ سُورَةُ التِّينَ مَكَّيَّةٌ ۲۸ رکوعہا ۱

رکوع ۱

سورۃ التین کی ہے

آیات ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حمد فرمانے والا ہے

وَالْتَّيْنِ وَالرَّبِيعُونِ لَا وَطُورِسِينِينَ لَا وَهُذَا الْبَلِدُ

انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم ۵ اور سینا کے (پھاڑ) طور کی قسم ۵ اور اس امن والے شہر (مکہ)

الْأَمِينِ لَا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

کی قسم ۵ بیکن ہم نے انسان کو بہترین (اعتدال اور توازن والی) ساخت میں پیدا فرمایا ہے ۵

شَهَ سَادَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ لَا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ

پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت میں لوٹا دیا ۵ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل

عَمِلُوا الصِّلَاةَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مُسُونٍ لَا فَمَا يَكِيدُ بِكَ

کرتے رہے تو ان کے لئے ختم نہ ہونے والا (دائی) اجر ہے ۵ پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین (یا قیامت اور

بَعْدُ بِالرِّيْنِ لَا لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمُ الْحَكَمِينَ

جزا و سزا) کے بارے میں جھلکتا ہے ۵ کیا اللہ سب حکموں سے بڑا حکم نہیں ہے ۵

۹۶ سُورَةُ الْعَلَقِ مَكْيَّةٌ ۱۹ آیاتا ۹۶ رکوعها ۱

آیات ۱۹ سورۃ العلق کی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

۱۹۱ اَقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اَقْرَا وَرَبُّكَ الَّذِي كَرَمَ ۝ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَ لِمَنْ

(۱۔ حبیب!) اپنے رب کے نام سے (آغاز کرتے ہوئے) پڑھئے جس نے (ہر چیز کو) پیدا فرمایا ۵ اس نے انسان کو (رحم مادر میں)

عَلَقٍ ۝ اَقْرَا وَرَبُّكَ الَّذِي كَرَمَ ۝ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَ لِمَنْ

جونک کی طرح معلم و وجود سے پیدا کیا ۵ پڑھیئے اور آپ کا رب ہوا ہی کریم ہے ۵ جس نے قلم کے ذریعے (لکھنے پڑھنے کا) علم سکھایا ۵

عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ گَلَّا إِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى ۝

جس نے انسان کو (اس کے علاوہ بھی) وہ (پکھ) سکھادیا جو وہ نہیں جانتا تھا ۵ (مگر) حقیقت یہ ہے کہ (نافرمان) انسان سرکشی کرتا ہے ۵

۱۹۲ اَنْ سَأَهَا سْتَغْفِي ۝ اِنَّ اِلِي سَابِكَ الرَّجْعَى ۝ اَسَاءَتِي

اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو (دنیا میں ظاہر) بے نیاز دیکھتا ہے ۵ میشک (ہر انسان کو) آپ کے رب ہی کی طرف لوٹتا ہے ۵ کیا آپ نے

الَّذِي يَنْهَا ۝ لَا عَبْدًا اِذَا صَلَى ۝ اَسَاءَتِي اِنْ كَانَ

اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ۵ (الله کے) بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ۵ ۵ بھلا دیکھئے تو اگر

عَلَى الْهُدَى ۝ اَوْ اَمَرَ بِالْتَّقْوَى ۝ اَسَاءَتِي اِنْ

وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ (لوگوں کو) پر ہیز گاری کا حکم دیتا (تو کیا خوب ہوتا) ۵ اب بتائیے! اگر اس نے (دین حق کو) جھٹالا ہے اور

کَذَبَ وَتَوْلَى ۝ اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللَّهَ يَرَى ۝ گَلَّا

(آپ سے) منہ پھیر لیا ہے (تو اس کا کیا حشر ہوگا)? ۵ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ (اس کے سارے کردار کو) دیکھ رہا ہے؟ ۵ خبردار! اگر وہ

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٌ كَذَبَةٌ

(گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے) باز نہ آیا تو ہم ضرور (اے) پیشانی کے بالوں سے کپڑ کر گھٹیں گے ۵ وہ پیشانی جو جھوٹی

خَاطَّئَتِهِ حَفْلَيْدُ نَادِيَهُ لَا سَنَدُعُ الرَّبَانِيَّةَ لَا ۱۶

(اور) خط کار ہے ۵ پس وہ اپنے ہم نشیوں کو (مد کیلے) بلا لے ۵ ہم بھی عنقریب (اپنے) سپاہیوں (یعنی دوزخ کے عذاب پر قرقرہ شتوں) کو بلا لیں گے ۵

كَلَّا طَلَاطِعَهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ السُّجُودُ ۱۹

ہرگز نہیں! آپ اس کے کئے کی پرواہ نہ کیجئے، اور (اے حبیبِ مکرم!) آپ سریجود رہئے اور (ہم سے مزید) قریب ہوتے جائیے ۵

إِيَّاهَا ۵ ۹ سُورَةُ الْقَدْرِ مَكَّيَّةٌ ۲۵ رَكُوعُهَا ۱

رکوع ۱

سورۃ القدر کی ہے

آیات ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ۵

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدُّسِ ۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ

بیک ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں اتنا رہے ۵ اور آپ کیا سمجھے ہیں (کہ) شب قدر
الْقُدُّسِ ۲ لَيْلَةُ الْقُدُّسِ لَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۳

کیا ہے ۵ شب قدر (فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں) ہزار مہینوں سے بہتر ہے ۵

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُمْ فِيهَا يَأْذِنُ رَبُّهُمْ مِّنْ كُلِّ

اس (رات) میں فرشتے اور روح الامین (جرائل) اپنے رب کے حکم سے (خیر و برکت کے) ہر امر کے ساتھ

أَمْرٌ ۴ لَا سَلَمٌ هَيْ كَثْنَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۵

اترے ہیں ۵ یہ (رات) طلوع نظر تک (سراسر) سلامتی ہے ۵

إِيَّاهَا ۸ ۹ سُورَةُ الْبَيْنَةِ مَدْنَيَّةٌ ۱۰۰ رَكُوعُهَا ۱

رکوع ۱

سورۃ البینۃ مدنی ہے

آیات ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے ۵

منزل

لَمْ يُكِنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ

اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور مشرکین اس وقت تک (کفر سے) الگ ہونے والے نہ تھے
مُنْفَكِيرِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبَيِّنَاتُ لَا سَارُولُ مِنَ اللَّهِ

جب تک ان کے پاس روشن دلیل (نہ) آجائی (وہ دلیل) اللہ کی طرف سے رسول (آخر زماں میٹھیت) ہیں جو (ان پر) پاکیزہ اوراق (قرآن) کی تلاوت فرماتے ہیں ۵ جن میں درست اور مستحکم احکام (درج) ہیں (ان) اہل کتاب میں (نبی آخر زماں میٹھیت)
تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

کی بہوت ورسالت پر ایمان لانے اور آپ کی شان اقدس کو پہچاننے کے بارے میں پہلے) کوئی پھوٹ نہ پڑی تھی مگر اس کے بعد کہ جب (بجٹ
الْبَيِّنَاتُ ۖ وَ مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

محمدی میٹھیت کی) روشن دلیل ان کے پاس آ گئی ۵ حالانکہ انہیں فقط بھی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کیلئے اپنے
مُخْلِصِينَ لِهِ الدِّينَ لَهُ حُنَفَاءُ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، (ہر باطل سے جدا ہو کر) حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نما
يُؤْتُوا الزَّكُوَةَ وَذِلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ

قام کریں اور زکوٰۃ دیا کریں اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے ۵ پیش کرو جو لوگ اہل کتاب
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین (سب) وزخ کی آگ میں (پڑے) ہوں گے وہ ہیشہ
خَلِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ

اسی میں رہنے والے ہیں، یہی لوگ بد تین مخلوق ہیں ۵ پیش کرو جو لوگ
أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ لَا أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۷

ایمان لائے اور نیک عمل کرنے رہے وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں ۵

جَزَا أُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

ان کی جزا ان کے رب کے حضور دائی رہاں کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں روں ہیں، وہ ان میں

الآنَهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَرَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَاضُوا

ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں، یہ (مقام) اس شخص

عَنْهُ طَذْلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۸

کے لئے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا

۹۹ سُورَةُ الْإِنْزَالِ / الْوَلَوَّةُ مَكَنَّتِيَةٌ ۹۳ رکوعاً تھا ۸

آیات ۸ رکوع ۱ سورۃ الانزال/الزلزلۃ مدنی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع ہونہا یہتھر ہیں ان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا ۖ ۚ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ

جب زمین اپنے سخت بھونچاں سے بڑی شدت کے ساتھ تھرہ رائی جائے گی ۵ اور زمین اپنے (سب) بوجھ تکال

أَثْقَالَهَا ۖ ۚ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۖ ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَرَّكُ

باہر پھیکے گی ۵ اور انسان (جیران و ششدرا ہو کر) کہے گا: اسے کیا ہو گیا ہے ۵ اس دن وہ اپنے حالات خود

أَجْبَارَهَا ۖ ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْلَى لَهَا ۖ ۚ يَوْمَئِذٍ يُصْدُرُ

ظاہر کر دے گی ۵ اس لئے کہ آپ کے رب نے اس کیلئے تیز اشاروں (کی زبان) کو سخن فرمادیا ہو گا ۵ اس دن لوگ مختلف گروہ بن

النَّاسُ أَشْتَانًا ۖ ۚ لَيُرَوُا أَعْمَالَهُمْ ۖ ۚ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ

کر (جدا جدا حالتوں کے ساتھ) نکیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں ۵ تو جس نے ذرہ بھرنکی کی ہو گی

ذَرَّةٌ خَيْرٌ أَيْرَةٌ ۖ ۚ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٌ شَرٌّ أَيْرَةٌ ۖ ۚ

وہ اسے دیکھ لے گا ۵ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہو گی وہ اسے (بھی) دیکھ لے گا

ایاتہا ۱۱ سُورَةُ الْعَدْيَتِ مَكَّيَّةٌ ۱۲ رکوعها ۱

آیات ۱۱

سورة العادیات کی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

وَالْعَدْيَتِ صَبِحًا ۝ قَالُوا مُرِيَّتْ قَدْحًا ۝ فَالْمُغَيْرَاتِ

(میدان جہاد میں) تیر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہائپنے ہیں ۵ پھر جو تقریباً پر سم مار کر چکاریاں نکالتے ہیں ۵ پھر جو صحیح ہوتے ہی (دوشنا پر)

صَبِحًا ۝ فَاشْرَنَ بِهِ نَقْعًا ۝ فَوَسْطَنَ بِهِ جَمْعًا ۝ إِنَّ

اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں ۵ پھر وہ اس (حملہ والی) جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں ۵ پھر وہ اسی وقت (دوشنا کے) ناشرکر میں گھس جاتے ہیں ۵ پیش

الْإِنْسَانَ لِرِبِّهِ لَكَنُودٌ ۝ وَإِنَّهُ عَلَى ذِلْكَ لَشَهِيدٌ ۝

انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشرکا ہے ۵ اور یقیناً وہ اس (ناشرکری) پر خود گواہ ہے ۵

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدٌ ۝ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثَرَ مَا

اور پیشک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے ۵ تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ (مردے) اٹھائے جائیں گے جو

فِي الْقُبُوْرِ ۝ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝ إِنَّ رَبَّهُمْ

تبروں میں ہیں؟ ۵ اور (راز) ظاہر کر دیجے جائیں گے جو سینوں میں ہیں؟ ۵ پیشک ان کا رب اس دن

بِهِمْ يَوْمَ مَيْنَلَخْبِيرٍ ۝

ان (کے اعمال) سے خوب خبر دار ہو گا ۵

ایاتہا ۱۱ سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكَّيَّةٌ ۱۰ رکوعها ۱

آیات ۱۱

سورۃ القارعہ کی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

منزل

آلَّقَارِعَةُ لَمَا الْقَارِعَةُ ۚ وَ مَا آدَلْسَكَ مَا

☆ کھڑا دینے والا شدید جھکا اور کڑک ۵ وہ (ہر شے کو) کھڑا دینے والا شدید جھکا اور کڑک کیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ (ہر شے کو) کھڑا دینے والا شدید جھکا اور کڑک سے مراد کیا ہے؟ (اس سے مراد) وہی قیمت ہے جس دن (سارے) لوگ عکھرے ہوئے پر انوں کی طرح ہو جائیں گے ۵

الْقَارِعَةُ ۖ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمُبْثُوثِ ۖ وَ تَكُونُ الْجَمَاعُ كَالْعَهْنِ الْمَنْفُوشُ ۖ فَآمَّا مَنْ

اور پہاڑ رنگ برقی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے ۵ پس وہ شخص کہ جس (کے اعمال) کے

تَقْلِيْتُ مَوَازِيْنَهُ ۖ لَفَهُوَ فِي عِيشَةٍ سَاضِيْةٍ ۖ وَ آمَّا

پڑے بھاری ہوں گے ۵ تو وہ خوشگوار عیش و سرت میں ہو گا اور جس شخص کے

مَنْ حَفَّتُ مَوَازِيْنَهُ ۖ لَفَامْهَهَاوِيَّةُ ۖ وَ مَا آدَلْسَكَ

(اعمال کے) پڑے ہلکے ہوں گے ۵ تو اس کا ٹھکانا ہاویہ (جہنم کا گڑھا) ہو گا اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ

مَاهِيَّهُ ۖ نَارٌ حَامِيَّهُ ۖ

ہاویہ کیا ہے؟ (وہ جہنم کی) سخت و گت آگ (کا انہائی گہرا گڑھا) ہے ۵

﴿۸﴾ ایاتہا ۱۰۲ اُسُورَةُ التَّکَاثُرُ مَكَّةُ ۱۶ رکوعہا ۱

رکوع ۱

سورۃ التکاثر کی ہے

آیات ۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

أَلْهَمْكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ لَا حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ كَلَّا سَوْفَ

تمہیں کثرت امال کی ہوں اور فخر نے آخرت سے نافل کر دیا ۵ یہاں تک کہ تم قبور میں جا پہنچ ۵ ہرگز نہیں! (مال و دولت تمہارے کام نہیں

تَعْلَمُونَ ۖ لَا ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

آنے گے) تم عنقریب (اس حقیقت کو) جان لو گے ۵ پھر (آگہ کیا جاتا ہے) ہرگز نہیں: عنقریب تمہیں (پناہ چاہم) معلوم ہو جائے گا ۵ ہاں کا ش

عِلْمَ الْيَقِينِ ۖ لَتَرَوْنَ النَّجَّابَ ۚ لَا شَمَ لَتَرَوْنَهَا

تم (مال و مزرکی ہوں اور اپنی غفلت کے انجام کو) یقینی علم کیستا جانتے ہے ۵۰ تم (انچی حرس کے نتیجے میں) دوزخ کو ضرور دیکھ کر ہو گے ۵ پھر تم اسے

عَيْنَ الْيَقِينِ ۖ لَا شَمَ لَتَسْعَنَ بِيَوْمَيْنِ عَنِ النَّعِيمِ ۖ

ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے ۵ پھر اس دن تم سے (اللہ کی) نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا ۵۰

﴿۱۳﴾ اُسُورَةُ الْعَصْرِ مَكَّيَّةٌ رُكُوعُهَا ۳ آیاتٰ ۱۰۳

رکوع ۱

سورۃ العصر کی ہے

آیات ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵۰

وَالْعَصْرِ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۖ لَا إِلَّا لَذِينَ أَمْسَوا

زمانہ کی قسم (جب کی گروہ انسانی حالات پر گواہ ہے) ۵۰ یہیک انسان خارے میں ہے (کوہ عمر عزیز نگارہ ہے) ۵۰ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک

وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَرِ ۖ

عمل کرتے رہے اور (معاشرے میں) ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور (تلیخ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں) باہم صبر کی تاکید کرتے رہے ۵۰

﴿۳۲﴾ اُسُورَةُ الْهَمَزَةِ مَكَّيَّةٌ رُكُوعُهَا ۱ آیاتٰ ۹

رکوع ۱

سورۃ الهمزة کی ہے

آیات ۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵۰

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لَّهَزَةٍ ۖ لَا الَّذِي جَمَعَ مَالًا

ہر اس شخص کیلئے بلاکت ہے جو (روپردو) طعنہ زدنی کرنے والا ہے (اور پس پشت) عیب جوئی کرنے والا ہے ۵۰ (خرابی و تباہی ہے اس شخص کیلئے)

سورۃ العصر کی آیت نمبر اکادوسرا ترجمہ : نماز عصر کی قسم (کوہ سب نمازوں کا وسط ہے) ۵۰

سورۃ العصر کی آیت نمبر اکاتیرا ترجمہ : وقت عصر کی قسم (جب دن بھر چمکنے والاسوون خود دو بنے کا مظہر پیش کرتا ہے) ۵۰

سورۃ العصر کی آیت نمبر اکاچوتا ترجمہ : زمانہ بعثت مصطفیٰ پیغمبر کی قسم (جو سارے زمانوں کا حاصل اور مقصود ہے) ۵۰

وَعَدَهُ لَا يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا ۝

جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا ہے ۵ وہ یہ گان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی ۵ ہر گز نہیں! وہ ضرور حظمه

لَيَنْبَذَنَ فِي الْحَطَمَةِ ۝ وَمَا آدَرْكَ مَا الْحَطَمَةُ ۝ ۵

(یعنی چوراچورا کر دینے والی آگ) میں بھیک دیا جائے ۵ اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ حطمہ (چوراچورا کر دینے والی آگ) کیا ہے؟

نَاسُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ لَا الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْأَفْدَةِ ۝ إِنَّهَا ۝

(یہ) اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے ۵ جو لوں پر (اپنی اذیت کے ساتھ) چڑھ جائے گی ۵ بیٹک وہ (آگ) ان لوگوں پر ہر

عَلَيْهِمْ مُعَصَدَةٌ ۝ لَا فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ ۝ ۸

طرف سے بند کر دی جائے گی ۵ (بھڑکتے شعلوں کے) لمبے لمبے ستونوں میں (اور ان لوگوں کے لئے کوئی راہ فرار نہ ہے گی) ۵

اِيَا تَهَا ۫ اَسْوَرَةُ الْفَيْلِ مَكْيَةٌ ۯ ۱۹ رکوعها ۱

رکوع ۱

سورۃ الفیل مکیۃ

آیات ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع ہونہا یہت میربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِإِصْلَابِ الْفَيْلِ ۝ أَلَمْ

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ۵ کیا اس نے ان کے

يَعْجَلُ كُيدَهُمْ فِي تَصْلِيْلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ۝

مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ ۵ اور اس نے ان پر (ہر سمت سے) پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ کے جھنڈ

أَبَايِيلَ ۝ تَرْمِيْهُمْ بِحَجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ

بیچ دیے ۵ جو ان پر سنکریلے پتھر مارتے تھے ۵ پھر (الله نے) ان کو کھائے ہوئے

كَعَصِيفٍ مَا كُوِيلٍ ۝ ۵

بھوسے کی طرح (پامال) کر دیا ۵

ایاتها ۲ اسُورَةُ قُرْيُشٍ مَكَّيَّةٌ ۲۹ رکوعها ۱

آیات ۳

سورہ قریش کی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ كَنَامَ سَطْرَ شَرُوعِ جُونَهَايَتْ مَهْرَبَانَ هَمِيشَةَ حَمْ فَرَمَانَ وَاللَّا هُوَ

لَا يُلِفُ قُرْيُشٍ ۝ الْفَعِمُ رَحْلَةَ الشِّتَّاءِ وَالصَّيفِ ۝

قریش کو رغبت دلانے کے سب سے ۵ انہیں سردیوں اور گرمیوں کے (تجاری) سفر سے مانوس کر دیا

فَلَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ لَا إِلَهَ مِنْ أَطْعَمُهُ مِنْ

پس انہیں چاہئے کہ اس گھر (خانہ کعبہ) کے رب کی عبادت کریں (تاکہ اس کی شکرگزاری ہو) ۵ جس نے انہیں بھوک (یعنی نظر و فاقہ

جُوَعٌ لَّهُ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

کے حالات) میں کھانا دیا (یعنی رزق فراہم کیا) اور (شمنوں کے) خوف سے امن بخشنا (یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا) ۵

ایاتها > ۷ اسُورَةُ الْمَاعُونِ مَكَّيَّةٌ ۷ رکوعها ۱

آیات ۷

سورہ الماعون کی ہے

رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ كَنَامَ سَطْرَ شَرُوعِ جُونَهَايَتْ مَهْرَبَانَ هَمِيشَةَ حَمْ فَرَمَانَ وَاللَّا هُوَ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللِّيْنِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھلتاتا ہے؟ ۵ تو یہ شخص ہے جو تیم کو دھکے دیتا ہے (یعنی تیموں کی حاجات کو درکرتا اور

الْيَتَيْمَ ۝ وَ لَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ

انہیں حق سے محروم رکھتا ہے) ۵ اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ☆ ۵ پس افسوس (اور خرابی) ہے ان

لِلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝

نمایوں کے لئے ۵ جو اپنی نماز (کی روح) سے بے خبر ہیں (یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں) ۵

۱۰۱
۲

☆ (بیان مارثے غرب پاس اور ایک دن کے مابین انتقال کے غایبی کو شیخ شیخ نیشنز کرتا)

الَّذِينَ هُمْ يَرَآءُونَ لَا وَيَسْعُونَ الْمَاءِ عُونَ ۚ

وہ لوگ (عبادت میں) کھلا دا کرتے ہیں ۱۰۸ اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے نہیں دیتے ۵

۱۰۸ سُورَةُ الْكَوْثَرُ مَكِّيَّةٌ رکوعها ۳

کوئ ۱

سورۃ الکوثر کی ہے

آیات ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرِبِّكَ وَأُنْحِرْ ۚ

بیک ہم نے آپ کو (ہر خیر و فضیلت میں) بے انتہا کثرت پختھی ہے ۱۰۸ آپ اپنے رب کیلئے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں (یہ بدیر یہ تشرک ہے) ۵

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَّذِي تُرُكْ ۚ

بیک آپ کا دشمن ہی نسل اور بے نام و نشان ہو گا

۱۰۹ سُورَةُ الْكُفَّارُ مَكِّيَّةٌ رکوعها ۶

کوئ ۱

سورۃ الکافروں کی ہے

آیات ۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ لَا لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَ

آپ فرمادیجھ: اے کافروں! میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو ۰ اور نہ تم اس

لَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ وَ لَا أَنَا عَابِدُ مَا

کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ۰ اور نہ (یہ) میں (آنندہ کبھی) ان کی عبادت کرنے والا ہوں

عَبْدُ ثُمُّ ۖ وَ لَا أَنْتُمْ عَبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۚ لَكُمْ

جن کی تم پرستش کرتے ہو ۰ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ۰ (سو)

(یہ کوئندہ تعلیمات کی بندگی کا جواب ہے اور یہ حکمی تعلیمات کی بندگی کا جواب ہے اور اسی تعلیمات کی بندگی کا جواب ہے ایسا ۱۰۹)

منزل

۶ دِینُکُمْ وَلِيَ دِینُنِ

تھارادین تمہارے لئے اور میرادین میرے لئے ہے ۵

۱۱۰ سُورَةُ النَّصْرِ مَدْنِيَّةٌ آیاتہا ۳ رکوعها

رکوع ۱

سورہ انصر مدنی ہے

آیات ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ ۖ ۗ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

جب اللہ کی مدد اور فتح آپنچھے ۵ اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں (کہ) وہ اللہ کے

يَدُخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ ۗ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

دین میں جو حق در جو حق داخل ہو رہے ہیں ۵ تو آپ (شکر) اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ طَ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ۖ ۷

اور (تو اضا) اس سے استغفار کریں، یہیک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا (اوہ زید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا) ہے ۵

۱۱۱ سُورَةُ الْلَّهِبِ/الْمَسَدِ مَكِيَّةٌ ۶ رکوعاہا

رکوع ۱

سورہ اللہب / المسد مکییہ ہے

آیات ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے ۵

تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ طَ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَ

ابو لهب کے دلوں پا تکٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے (اس نے ہمارے حبیب پر اتھانے کی کوشش کی ہے) ۵ اسے اسکے (موروثی) مال نے

مَا كَسَبَ طَ سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ طَ وَأَمْرَأَتُهُ طَ

کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اسکی کمائی نے ۵ عنقریب وہ شبلوں والی آگ میں جا پڑے گا اور اس کی (خبیث) عورت (بھی) جو (کامنے دار)

حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ۝ فِي جِبِيلِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ ۝

لکڑیوں کا بوجھ (سر پر) اٹھائے پھرتی ہے ☆ ۵۰ اسکی گرد़ن میں کھور کی چھال کا (وہی) رستہ ہو گا (جس سے کامتوں کا گٹھا باندھتی ہے) ۵

۱۱۲ سُورَةُ الْأَخْلَاصِ مَكَّيَّةُ ۲۲ ایاتہا ۲ رکوعها

رکوع ۱

سورہ الاخلاص کی ہے

آیات ۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ

(اے نبی مکرم!) آپ فرمادیجئے: وہ اللہ ہے جو یکتا ہے ۵۰ اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائز ہے ۵۰ نہ اس سے کوئی بیدا

يُولَدُ لَا ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ۝

ہوا ہے اور نہ ہی وہ بیدا کیا گیا ہے ۵۰ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے

۱۱۳ سُورَةُ الْفَلَقِ مَكَّيَّةُ ۲۰ ایاتہا ۱ رکوعها

رکوع ۱

سورہ الفلق کی ہے

آیات ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان ہمیشہ حرم فرمانے والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ لِمَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

آپ عرض کیجیے کہ میں (ایک) دھماکے سے انتہائی تیزی کیسا تھا (کائنات کو) وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں ۵۰ ہر اس چیز کے شر

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ لَا وَمِنْ شَرِّ النَّفَثَتِ فِي

(اور نقصان) سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے ۵۰ اور (بالخصوص) اندر ہیری رات کے شر سے جب (اس کی) ظلمت چھاجائے ۵۰ اور

الْعَقَدِ ۝ لَا وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگروں (اور جادوگروں) کے شر سے ۵۰ اور ہر حسد کر بینوالے کے شر سے جب وہ حسد کرے ۵۰

﴿۱۱﴾ سُورَةُ النَّاسِ مَكْيَّةٌ ۲۱ ایا تھا ۶ رکوعها ۱

آیات ۶ رکوع سورۃ الناس کی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الله کے نام سے شروع جو نہایت محربان ہمیشہ حرم فرمائے والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ

آپ عرض کیجئے کہ میں (سب) انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ۵۰ جو (سب) لوگوں کا بادشاہ ہے ۵۰ جو (ساری) نسل انسانی کا

النَّاسِ ﴿٣﴾ لِمَنْ شَرِّ الْوُسُواِسُ لِلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ إِلَّاَنَّ

معبد ہے ۵۰ وسوسہ انداز (شیطان) کے شر سے جو (الله کے ذکر کے اثر سے) پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے ۵۰ جو لوگوں

يُوْسُوسُ فِيْ صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ لِمَنِ الْجِنَّةُ وَالنَّاسُ ﴿٦﴾

کے دلوں میں وسوسہ ذات ہے ۵۰ خواہ وہ (وسوسہ انداز شیطان) جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے

دُعَاءُ خَتْمِ الْقُرْآنِ

أَللَّهُمَّ انْسُ وَحْشَتِي فِيْ قَبْرِيْ طَأْلَلَهُمَّ اسْرَ حَنْتِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ

اے اللہ! (اس قرآن کو) قبر کی وحشت و تہائی میں میرا منوس و غخوار بنا۔ اے اللہ! قرآن عظیم کے وسیلے سے مجھ پر حرم فرماؤ را سے میرے

وَاجْعَلْهُ لِيْ إِمَاماً وَنُوَرًا وَهُدًى وَرَاحَةً طَأْلَلَهُمَّ ذَكْرِيْ مِنْهُ

لئے پیشو، منج نور، سرچشمہ ہدایت اور خریزیہ رحمت بنا۔ اے اللہ! اس میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے اور اس میں سے جو

مَا نَسِيْتُ وَعَلِيْهِ مِنْهُ مَا جَهَلْتُ وَإِذْرُقْنِي تِلَاقْتَهُ آنَاءَ الْيَلِ

پکھ میں نہیں جانتا مجھے وہ بھی سکھا دے اور رات اور دن کی ساعتوں میں مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرماؤ را۔ تمام جہانوں کے

وَآنَاءَ النَّهَارِ طَوَاجْعَلْهُ لِيْ حِجَّةً يَسَارَبَ الْعَلَمِيْنَ ۝ امِيْنَ طَ

پرو درگار! اس قرآن کو رو ز قیامت میرے لئے (بخشش و مغفرت کی) دلیل بنادے۔ مولا میری دعا قبول فرماء۔

علامات الوقف

- ۰** یہ وقفِ تام یعنی ختم آیت کی علامت ہے جو درحقیقتِ گول ۃ ہے جسے دائرے ۵ کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے لیکن اولیٰ اور غیر اولیٰ کی ترجیح کا خیال رکھیں، یعنی ایسی جگہ پر وقف کریں جہاں علامت قوی ہو جیسے م اور ط اگر لا ہو تو ٹھہر نے یا نہ ٹھہر نے کا اختیار ہے۔
- م** وقفِ لازم کی علامت ہے جہاں ٹھہرنا ضروری ہے اور اگر ٹھہرنا نہ جائے تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے جس سے بعض مواقع پر کفر لازم آتا ہے۔
- ط** وقفِ مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔
- ج** وقفِ جائز کی علامت ہے، ٹھہرنا بہتر ہے نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔
- ز** وقفِ مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
- ص** یہاں وقف کرنے کی رخصت ہے، البتہ ملا کر بھی پڑھا جاسکتا ہے۔
- ق** قیلَ علیهِ الوقف کا مخفف ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
- صلے** الوصل اولیٰ کا مخفف ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
- صل** یہ قَدْيُونَوَصْلُنَ کا مخفف ہے، یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔
- قف** یہ وقف بہتر کی علامت ہے، یہاں ٹھہر کر آگے پڑھنا چاہیے۔
- س** س یا سکته علامت سکته ہے یہاں اس طرح ٹھہرنا جائے کہ سانس ٹوٹنے نہ پائے یعنی بغیر سانس لئے ذرا سا ٹھہریں۔
- وققة** سکتہ کو ذرا طول دیا جائے اور سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہریں لیکن سانس نہ ٹوٹے۔
- لا** یہ علامت کہیں دائرہ آیت کے اوپر آتی ہے اور کہیں متن میں، متن کے اندر ہو تو ہر گز نہیں ٹھہرنا چاہئے اگر دائرہ آیت کے اوپر ہو تو اس میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہر نے اور نہ ٹھہر نے سے مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
- ک** کذالک کی علامت ہے، یعنی جو علامت پہلے آتی وہی یہاں سمجھی جائے۔

رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مکملہ اوقاف حکومت پنجاب لاہور

رجسٹریشن نمبر: 299

تاریخ اجراء: 20-10-91 اوقاف/ 88 ترتیب نمبر: ڈی یوائے۔ 2(5) اوقاف/ 88

تصدیق کی جاتی ہے کہ ادارہ منہاج القرآن ماؤن ٹاؤن لاہور کو اشاعت قرآن (طبعی اعلان سے مبررا) ایک ایل آئی دی ۱۹۷۳ء کے تحت بطور ناشر قرآن رجسٹر کر لیا گیا ہے۔

وستخط

ڈائریکٹر علماء اکیڈمی

برائے ناظم اعلیٰ اوقاف پنجاب، لاہور

سرٹیفکیٹ صحبتِ متن

تصدیق کی جاتی ہے کہ ہم نے اس قرآن حکیم کے متن کو حرفًا حرفاً بنظر غائر پڑھا ہے اور اس کی کتابت اور پروف چیک کئے ہیں۔ محمد اللہ تعالیٰ یہ هر قسم کی غلطی سے مبررا ہے۔

حافظ قاری حکیم محمد یونس مجددی

پروف ریڈر فرید ملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ

عرضِ ناشر

ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس قرآن حکیم کی طباعت اور جلد بندی میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو اس کے باوجود اگر کسی قاری کو کوئی غلطی یا کسی بیشی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع کر کے منون فرمائے۔

منہاج القرآن پبلیکیشنز

صحبتِ جلد بندی

تصدیق کی جاتی ہے کہ اس قرآن حکیم کے ہر فرمہ کو چیک کیا گیا ہے اس کی جلد بندی اور فرموں کی ترتیب میں کوئی غلطی نہیں۔

جلد ساز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



حُسْبَرِيْنَ سَرْفِيْكِيْٹ

299

رجسٹریشن نمبر _____
تاریخ اجرام ۹۱-۰۵-۲۰ ترتیب نمبر ۷۱-۲۰۲۱ / ۸۸
تصدیق کی جاتی ہے کہ فرد/کمپنی/پریس اخلاقیہ مہانت القرآن دعا دل ٹیکن لائبریری
کو اشاعت قرآن (طبعتی املاط سے مبتدا) ایکٹ ایل آئی وی ۱۹۷۳ کے تحت بطور
ناشر قرآن رجسٹر کر دیا گیا ہے۔

ل عس
ڈاکٹر علی اکبر کیمی
برائے ناظم اعلیٰ اوقاف پنجاب لاہور
۱۴۴۶ھ/۱۹۶۷ء